

28.11.2018

Application for withdrawal of the present service appeal received from office. Case file also received. Learned counsel for the appellant appeared and stated, that in view of corrigendum dated 16.11.2018 issued by the respondent No.2, the grievance of the appellant has been redressed. Request made for withdrawal of the present service appeal. Consequently, the present service appeal is hereby dismissed as withdrawn. No order as to costs. File be consigned to the record room.



Member

ANNOUNCED.

28.11.2018

23-10-18

Due to retirement of Honorable  
Chairman the Tribunal is non  
functional therefore the case is  
adjourned to come up for the  
same on 12-11-2018

*Heater*  
Reader

12.11.2018

Due to retirement of Hon'ble Chairman, the  
Tribunal is defunct. Therefore, the case is adjourned.  
To come up on 29.11.2018. Written Not received. Mr.  
Rasool Zaman husband of private respondent No.3  
appeared and submitted written reply and placed on  
file. Written reply on behalf of official respondents is  
still awaiting. Mr. Hameed Ur Rehman AD  
representative of official respondents absent.

*Heater*  
Reader

05.10.2018

Counsel for the appellant Mst. Shah Taj Akhtar present. Preliminary arguments heard. It was contended by learned counsel for the appellant that the appellant was serving in Education Department as PSHT in Government Girls Primary School Ghari Sher Ahmad. It was further contended that the appellant was transferred by the competent authority vide order dated 04.09.2018 from GGPS Gharhi Sher Ahmad to GGPS Mandori Qatal Shah. It was further contended that private respondent No. 3 Fakher Taj was transferred from GGPS Mandori Qatal Shah to at the place of the appellant i.e GGPS Ghari Sher Ahmad vide same order. It was further contended that the respondent-department was bound to transfer the appellant within her own Union Council but the respondent-department has transferred the appellant in other Union Council which is against the law therefore, the impugned order is illegal and liable to be set-aside.

The contention raised by the learned counsel for the appellant needs consideration. The appeal is admitted for regular hearing subject to deposit of security and process fee within 10 days, thereafter, notice be issued to the respondents for written reply/comments for 09.10.2018 before S.B. Notice of application for suspension of operation of impugned order be also issued to the respondents for the date fixed.

*MA*  
(Muhammad Amin Khan Kundi)  
Member

09.10.2018

Mr. Abdul Nawaz, husband of the appellant present. Security and process fee have not been deposited. Husband of the appellant submitted before the court that security and process fee have not been deposited due to misunderstanding and requested for extension of time. Granted. Security and process fee be deposited within 3 days. Thereafter, notices be issued to the respondents. To come up for written reply on main appeal as well as reply/arguments on stay application on 24.10.2018 before S.B.


Appellant Deposited  
Security & Process Fee

*Q*  
Chairman

Form-A  
FORM OF ORDERSHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No. \_\_\_\_\_ /2018

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	25/09/2018	<p>As per direction of the Worthy Chairman this case is submitted to the S. Bench for decision on office objection. To be put up there on <u>25/10/18</u></p> <p> REGISTRAR</p>

A. CH

10/18

The appeal of Mst. Shah Taj Akhtar W/O Abdul Nawaz r/o Khanaq Abad Garhi Sher Ahmad Distt. Bannu PHST GGPS Garhi Sher Ahmad Bannu received today i.e. on 24.09.2018 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Address of respondent no. 3 is incomplete which may be completed according to the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal rules 1974.
- 2- Copy of rejection order of departmental appeal mentioned in the memo of appeal is not attached with the appeal which may be placed on it.

No. 1922 /S.T.

Dt. 24/9 /2018.

REGISTRAR  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

Mr. Inayatullah Khan Adv. Pesh.

① ~~Objection Removed. No. 1~~  
regarding address  
of respondent No. 3  
is removed and  
complete address is  
provided in the  
memo of appeal  
& addresses parties.

② As far as objection No. 2 is  
concerned the original  
impugned orders of respondents  
i.e. an order dated  
24/08/2018 and 4-10/2018  
impugned before this Honorable  
Tribunal while departmental  
appeal filed against the  
order dated 05/09/2018 was referred  
to EDO on 5/09/2018  
and there is no other  
order in the file of other  
so this order was referred  
to EDO on 5/09/2018  
with writen remarks  
in the appeal  
order.

Advocate  
O.M.

Sir,

The objections of this office and  
reply of counsel for the appellant is  
submitted for order please.

[Signature]  
25/9/18

Respectful  
Chairman

11/1/18

*[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through or a second page of notes.]*

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. 1726/2018


Mst. Shah Taj Akhtar..... Appellant

Versus

Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

**INDEX**

S.No.	Description of documents.	Annexure	Pages.
1	Grounds of appeal.		1-6
2	Affidavit.		7
3	Stay application.		8-9
4	Affidavit.		10
5	Addresses of the parties.		11
6	Copy of impugned corrigendum order dated 04.09.2018	A	12
7	Copy of impugned order dated 24.08.2018	B	13
8	Copy of departmental appeal	C	14
9	Copy of appeal to Education Minister + Govt policy	D	15-21
10	Wakalatnama.		22



Appellant

through



**Inayat Ullah Khan**


Advocate High Court

Peshawar.

LL.M (U.K)

Cell: 0333-9227736

&



**Faheem Ullah Khan**

Advocate High Court

Dated: 24.09.2018

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Diary No. 1466

Dated 24/9/2018

S.A.No. 1226 /2018

Mst. Shah Taj Akhtar w/o Abdul Nawaz

R/o Khanaq Abad, Garhi Sher Ahmad

Tehsil and District Bannu

Primary School Head Teacher (PSHT) (BPS-15)

GGPS, Garhi Sher Ahmad Bannu..... Appellant

Versus

1) Director Education Elementary and Secondary Education  
Khyber Pakhtunkhwa, near G.H.S.S No.1, G.T. Road,  
Peshawar.

2) District Education Officer, (Female) Bannu.

3) Fakhar Taj, Primary School Head Teacher..... Respondents  
w/o Rasool Nawaz  
w/o Saeed abad near gareeb Abad Bazar  
Ahmed Khan Tehsil & Distt Bannu -

Appeal u/s 4 of the N.W.F.P Service  
Tribunal Act, 1974 against the impugned  
original order dated 04.09.2018 whereby  
respondent No.3 namely Fakhar Taj, PSHT  
was transferred from union council Lalozai  
area Sorani GGPS Mandori Qatal Shah to  
union council Garhi Sher Ahmad GGPS  
Mulagan against vide serial No.2 vide order  
dated 24.08.2018 but all of a sudden she  
(Fakhar Taj) was again transferred vide  
impugned corrigendum order dated  
04.09.2018 from union council GGPS  
Mandori Qatal Shah to GGPS Garhi Sher  
Ahmad against vide serial No.2 against

**Filed to-day**

**Registrar**

24/9/18



which the appellant preferred her **departmental appeal dated 05.09.2018** to respondent No.1, which was referred to respondent No.2 i.e. EDO (female) Bannu with the direction to transfer the appellant as per her request in terms of the government policy but her departmental appeal was filed.

Prayer:

On acceptance of this appeal, the impugned corrigendum order dated **04.09.2018** in original office order dated 24.08.2018 may kindly be set aside and the appellant may kindly be **retained** at her current place of posting i.e. GGPS Garhi Sher Ahmad because the impugned order was passed by respondent No.2 in utter violation of section 3 (3) of the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation, Posting and Transfer of Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011 against which departmental appeal dated 05.09.2018 was preferred to respondent No.1 which was received by the office of respondent No.2 vide Diary No. <sup>24</sup>4665 dated 10.09.2018 and the same was filed, hence this appeal within stipulated period of 30 days against the final order, which is well within time.

Any other relief which this Hon'ble Tribunal deems appropriate in the circumstances of this service appeal and to whom the appellant found entitled may kindly also be granted.

---

***Respectfully Sheweth;***

Brief facts giving rise to the instant appeal are as under:-

- 1) That the appellant was appointed on 30.06.1997 as Primary School Teacher (PST) on regular basis in BPS-7 plus usual allowance as admissible under the existing rules/ policy from the date of her taking over charge in the public interest.
- 2) That the appellant having almost 21 years service at her credit and as such performing her duties with dedication, honesty and to the entire satisfaction of her immediate seniors without any complaint at her union council Garhi Sher Ahmad at the time of impugned transfer order referred above in the heading of this appeal.
- 3) That the appellant was transferred vide impugned corrigendum order Endst No.5327-29 dated 04.09.2018 from her Union Council GGPS Garhi Sher Ahmad to Union Council Lalozai area Sorani GGPS Mandori, whereas Fakhar Taj (PSHT) was transferred from union council Lalozai area Sorani GGPS Mandori Qatal Shah to union council GGPS Garhi Sher Ahmad. (Copy of impugned corrigendum order dated 04.09.2018 is attached as Annexure "A").
- 4) That initially respondent No.3 was transferred vide impugned original order Endst.No.5088-91 dated 24.08.2018 from union council Lalozai area Sorani GGPS Mandori Qatal Shah to union council Garhi Sher Ahmad GGPS Mulagan but all of a

sudden she was again transferred to union council Garhi Sher Ahmad against vide serial No.1 within a period of 10 days without assigning any reason or cause. (Copy of impugned order dated 24.08.2018 is attached as Annexure "B").

- 5) That the appellant feeling aggrieved by the impugned orders dated 04.09.2018 and 24.08.2018, preferred her departmental appeal dated 05.09.2018 to the Appellate Authority i.e. respondent No.1, which was referred to respondent No.2 to transfer the appellant as per her request keeping in view the posting and transfer policy but the same was filed. Hence presents this service appeal before this Hon'ble Tribunal on the following amongst other grounds within the stipulated period of 30 days against the final order. (Copy of departmental appeal preferred to the appellate authority is attached as Annexure C).
- 6) That the appellant also preferred another appeal to the Education Minister which was marked to EDO female Bannu with the direction to deal with the case as per government policy of posting and transfer regarding primary school teachers but the same was filed. (Copy of appeal is attached as Annexure D)

Grounds of appeal:

- a) That the impugned orders are against the law, facts and material available on record.
- b) That the respondent No.2 passed the impugned orders dated 04.09.2018 and 24.08.2018 which are violative of section 3 (3) of the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation,

Posting and Transfer of Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011.

It is pertinent to reproduce section 3(3) of the Act *ibid* for ready reference of this Hon'ble Tribunal.

**Section 3 Appointment, Posting and Transfer of Primary School Teachers---- (1) .....**

***“(3) The Primary School Teacher shall be transferred to other school within the Union Council on completion of tenure as may be prescribed subject to the policy of rationalization for maintaining certain student teachers ratio, if any”.***

It becomes abundantly clear from the above referred section 3(3) that respondent No.2 did not transfer the appellant within the union council of Garhi Sher Ahmad but instead she was transferred from union council Garhi Sher Ahmad GGPS Garhi Sher Ahmad to union council Lalozi area Sorani GGPS Mandori Qatal Shah, hence not tenable in the eyes of law.

- c) That respondent No.3 namely, Fakhar Taj, belongs to her parent Union Council Bazar Ahmad Khan where she could easily be transferred as per section 3(3) of Act *ibid* but she was not transferred in consonance with the Act *ibid* which act of respondent No.2 is without lawful authority, hence void ab-initio.

It is pertinent to mention that the word “***shall***” mentioned in section 3(3) of the Act *ibid* indicates that the act of transfer to other school within the union council is mandatory not discretionary.


- d) That as per government policy and as per section 3(3) of Act ibid it is in the public interest to transfer the Primary School Teacher within the Union Council to other school hence the impugned orders dated 04.09.2018 and 24.08.2018 were passed against the public interest, liable to be set aside.

Keeping in view, what has been stated above that on acceptance of this appeal, it is, therefore, humbly prayed that the impugned corrigendum order dated **04.09.2018** in original office order dated **24.08.2018** may kindly be set aside and the appellant may kindly be **retained** at her current place of posting i.e. **Union Council GGPS Garhi Sher Ahmad** vide serial No.2 because the impugned orders were passed by respondent No.2 in utter violation of section 3 (3) of the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation, Posting and Transfer of Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011.


Any other relief which this Hon'ble Tribunal deems appropriate in the circumstances of this service appeal and to whom the appellant found entitled may kindly also be granted.

NOTE:

The appellant so far has not relieved her charged at union council Garhi Sher Ahmad GGPS Garhi Sher Ahmad against vide serial No.2, hence this appeal may kindly be fixed as soon as possible.

  
Appellant

through

  
**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL. M (U.K)

&  
**Faheem Ullah Khan**  
Advocate High Court

Dated: 24.09.2018

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. \_\_\_\_\_/2018


Mst.Shah Taj Akhtar..... Appellant

Versus


Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

AFFIDAVIT

I, Mst.Shah Taj Akhtar w/o Abdul Nawaz R/o Khanaq Abad, Garhi Sher Ahmad Tehsil and District Bannu Primary School Head Teacher (PSHT) (BPS-15) GGPS, Garhi Sher Ahmad Bannu do hereby affirm and declare on oath that the contents of the Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.

  
Deponent

1101-1414943-8

**ATTESTED**  
  
  
District Commissioner  
Bannu  
Peshawar High Court

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. \_\_\_\_\_/2018

Mst. Shah Taj Akhtar..... Appellant

**Versus**


Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

APPLICATION FOR SUSPENSION OF  
THE OPERATION OF IMPUGNED  
ORDERS DATED 04.09.2018 AND  
24.08.2018 TILL THE FINAL DECISION  
OF ACCOMPANYING SERVICE APPEAL.

***Respectfully Sheweth;***

- 1) That the above titled appeal is being filed before this Hon'ble Tribunal in which no date has yet been fixed.
- 2) That grounds of appeal may be read as part and parcel of this application.
- 3) That prima facie arguable case exists in favour of petitioner/ appellant and there is every likelihood of its success.
- 4) That balance of convenience also lies in favour of the appellant in terms of section 3(3) of the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation, Posting and Transfer of Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011.
- 5) That if the relief as prayed for in the heading of application is not granted, petitioner/ appellant will suffer irreparable loss.

It is, therefore, prayed that on acceptance of this application, operation of the impugned orders dated 24.08.2018 and 04.09.2018 may kindly be suspended till final decision of instant service appeal.




Appellant/ Petitioner

through



**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL. M (U.K.)

& 

**Faheem Ullah Khan**  
Advocate High Court

Dated: 24.09.2018



BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. \_\_\_\_\_/2018

Mst. Shah Taj Akhtar..... Appellant



Versus

Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

AFFIDAVIT

I, Mst. Shah Taj Akhtar w/o Abdul Nawaz R/o Khanaq Abad, Garhi Sher Ahmad Tehsil and District Bannu Primary School Head Teacher (PSHT) (BPS-15) GGPS, Garhi Sher Ahmad Bannu do hereby affirm and declare on oath that the contents of the **Application** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.

  
Deponent

~~ATTESTED~~  
  


BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. \_\_\_\_\_/2018

Mst. Shah Taj Akhtar..... Appellant

Versus

Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

ADDRESSES OF THE PARTIES

APPELLANT:

Mst. Shah Taj Akhtar w/o Abdul Nawaz  
R/o Khanaq Abad, Garhi Sher Ahmad  
Tehsil and District Bannu  
Primary School Head Teacher (PSHT) (BPS-15)  
GGPS, Garhi Sher Ahmad Bannu

RESPONDENTS:

- 1) Director Education Elementary and Secondary Education  
Khyber Pakhtunkhwa, near G.H.S.S No.1, G.T. Road,  
Peshawar.
- 2) District Education Officer, (Female) Bannu.
- 3) Fakhar Taj, Primary School Head Teacher r/o Saeed abad  
near gareeb Abad Bazar Ahmed Khan  
Tehsil & Distt Bannu

  
Appellant

through



**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL. M (U.K)

&

**Faheem Ullah Khan**  
Advocate High Court

**CORRIGENDUM**

In partial modification to this office Endost.No.5088-91 dated 24/08/2018 the following amendment is here by ordered in the interest of public service with immediate effect.

S.NO	Name & School	From	To	Remarks
1	Fakher Taj PSHT under transfer to GGPS. Mulagan	GGPS. Mandori qatal shah	GGPS. Ghari Sher Ahmad	V.S.No.2
2	Shahtaj PSHT	GGPS. Ghari Sher Ahmad	GGPS. Mandori qatal shah	V.S.No.1

-sd-  
(DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU.

Endst No. 5327-28 Dated 4/9 /2018  
Copy forwarded to the:-

1. S.D.E.O (Female) Bannu,
2. District Monitoring Officer Bannu.
3. Teacher concerned.

DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANN

Checked  
by  
Advocate



OFFICE OF THE  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (F) BANNU.

Annex B<sup>4</sup>

-13-

**OFFICE ORDER**

As per the Director E&SE Khyber Pakhtun Khawa Peshawar the Transfer / Adjustment of the following teachers are hereby ordered on administrative ground as per their names and schools noted below, in the best interest of public service with immediate effect.

S.No	Name of Teacher	From	To	Remarks
1.	Fikher Taj PSHT	GGPS. Mandori Patal shah	GGPS. Mulagan ✓	V.S.No.2
2.	Kausar Ara PSHT	GGPS. Mulagan	GGPS. Mandori Patal shah	V.S.No.1
3.	Romana Naz PSHT	GGPS. Mumtaz Beli Killa	GGPS. Kotka Talib shah	V.S.No.4
4.	Mehesroon PSHT	GGPS. Kotka Talib shah	GGPS. Mumtaz Beli Killa	V.S.No.3

Note;

1. Charge report should be submitted to all concerned.
2. HOTA/DA is allowed.

DISTRICT EDUCATION OFFICER,  
(FEMALE) BANNU.

Endst; NO. 5088-91 Bannu the

Dated; 24/08/2018

Copy to the;

1. Director E&SE Khyber Pakhtun Khawa Peshawar.
2. SDEO (F) Bannu.
3. DDO Bannu.
4. DAO Bannu.
5. Teachers Concerned.

DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU.

Only  
Attended by  
Advocate

خدمت صحت ڈائریکٹری ایلکٹری اینڈ ٹیلیفون سروسز کے تحت

عنوان :- آرڈر کی معوی

DIP No. 2465

15-9-2018

صاحب عالی !

گذشتہ دنوں میں کہ سبھاہ میں فرخ تاج PSHT کے آرڈر نمبر 91-988508 مورخہ 24.8.18 کو جی جی پی ایس کوئلہ ملاکار آرڈر ہوئے۔ بعد میں اسکے آرڈر کی جی جی پی ایس گڑھی ستر الہ میں آرڈر نمبر 29-27-53 مورخہ 2018 4.9 کو ہوئے۔ دس دن کے اندر میں فرخ تاج کے دو سکول آرڈر ہوئے وہ کوئٹہ و جوات تھے جسکی وجہ سے ان کے آرڈر دس دن میں جی جی پی ایس ملاکار سے جی جی پی ایس گڑھی ستر الہ ہوئے۔

آپ کے ساتھ مندرجہ ذیل گواہت دینی کے لئے ہے۔

1- جی جی پی ایس گڑھی ستر الہ میرے گاؤں کا سکول ہے جبکہ میں فرخ تاج کا تعلق دوسرے یونین کونسل بازار الہ خان سے ہے۔

2- 15 دن کے اندر میں فرخ تاج کے آرڈر کن وجوہات کی بناء پر دو سکولوں میں ہوئے آیا انکو وہ سکول بند نہیں آیا اور آفس والوں نے انکی حواستی کا احترام کیا۔

3- بازار الہ خان یونین کونسل میں 5 سے 6 سکول موجود ہیں جو اس سکول سے بھی قریب ہیں ان سکولوں میں کیوں نہیں آرڈر کروائیں۔

4- حکومتی پالیسی کے مطابق فیمل ٹیچرز کو اپنے ہی یونین کونسل میں حکم دی جاتا ہے لیکن مجھے تو اپنے یونین کونسل سے 5 یونین کونسل دور تقریباً 40 کلومیٹر دور ٹرانسفر کیا گیا ہے۔

5- جی جی پی ایس کوئلہ ملاکار میں فرخ تاج کے گھر سے تقریباً ایک فرلانڈ کے فاصلے پر ہے وہاں کیوں نہیں مانتیں آیا وہ سکول ایک فستی کے مطابق ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ گواہت کو دیکھ کر یہ سچ

DEED (C) Bannu  
 Mr. Farooq  
 Mr. Farooq

میرے تادمے کے آرڈر کے لئے  
 بازار الہ خان  
 District Secondary Education  
 Khuzdar, Balochistan, Pakistan

جی جی پی ایس گڑھی ستر  
 District Office  
 Bannu

حضرت صاحبزادہ ابراہیم رضا خان صاحب وزیر تعلیم صوبہ پنجاب  
عنوان: منشی فیضان اللہ شاہ صاحب ایف آئی آر ڈی، 5327-29، یونٹ 4، 9، 2018

صاحب عالی

مزا دہی ہے کہ مسماہ سے فیضان ایف آئی آر ڈی 5327-29 یونٹ 4، 9، 2018 کو جی جی پی ایس  
کوٹہ ملک خان آرڈر ہوٹا۔ بعد میں نے آرڈر جی جی پی ایس ٹرینڈ میں ایف آئی آر ڈی 5327-29  
یونٹ 4، 9، 2018 کو ہوٹا۔ دس دن کے اندر میں فیضان ایف آئی آر ڈی میں آرڈر ہوٹا جو کہ بھاری  
سیا کی زیادتی ہے۔

ایکسا نے مذکورہ ذیل گزارشات پیش کی تھیں۔  
1. جی جی پی ایس ٹرینڈ میں ایف آئی آر ڈی کے ٹیچرز کو سکول کے ٹیچرز کا سول ہے جبکہ میں فیضان ایف آئی آر ڈی کا تعلق

دوسرے یونین کونسل بازار احمد خان سے ہے۔  
یونین کونسل بازار احمد خان میں سے اسکول موجود ہیں ان سکولوں میں آئے آرڈر کیوں نہیں ہو سکتا  
وہ کوئی وجوہات تھے جنہیں وجہ سے میں فیضان ایف آئی آر ڈی کو دس دن کے اندر جی جی پی ایس کوٹہ ملک خان سے جی جی

پی ایس ٹرینڈ میں ایف آئی آر ڈی ٹرانسفر ہو گیا۔  
ایف آئی آر ڈی کوٹہ ملک خان سے ایف آئی آر ڈی ٹرینڈ میں ایف آئی آر ڈی ٹرانسفر ہو گیا۔  
ایف آئی آر ڈی ٹرینڈ میں ایف آئی آر ڈی ٹرانسفر ہو گیا۔  
ایف آئی آر ڈی ٹرینڈ میں ایف آئی آر ڈی ٹرانسفر ہو گیا۔  
ایف آئی آر ڈی ٹرینڈ میں ایف آئی آر ڈی ٹرانسفر ہو گیا۔

اس لیے آپ سے عود جانہ گزارشت ہے کہ میں آرڈر منسوخ کیے جائیں۔

DEO (F) Bannu  
Per Govt  
Posting from  
Primary School  
as desired by  
to CM for

ایف آئی آر ڈی  
Chief  
Minister for Elementary &  
Secondary Education,  
Khyber Pakhtunkhwa

2558  
19/9/2018

ایف آئی آر ڈی  
ایف آئی آر ڈی

Advocate

THE KHYBER PAKHTUNKHWA (APPOINTMENT, DEPUTATION,  
POSTING AND TRANSFER OF TEACHERS, LECTURERS,  
INSTRUCTORS AND DOCTORS) REGULATORY ACT, 2011.

(KHYBER PAKHTUNKHWA ACT NO. XII OF 2011)

CONTENTS

PREAMBLE

SECTIONS

1. Short title, application and commencement.
2. Definitions.
3. Appointment, posting and transfer of primary school teachers.
4. Appointment of doctors, lecturers, instructors, subject specialists and teachers on adhoc basis.
5. Initial posting.
6. Deputation of Doctors.
7. Postgraduate Medical Education
8. Provisions relating to doctors apply to lecturers and instructors.
9. Act to over-ride other laws.
10. Jurisdiction barred.
11. Removal of difficulties.
12. Power to make rules.

*Original*  
*All set up*  
*by*  
*Advocate*

THE KHYBER PAKHTUNKHWA (APPOINTMENT, DEPUTATION,  
POSTING AND TRANSFER OF TEACHERS, LECTURERS,  
INSTRUCTORS AND DOCTORS) REGULATORY ACT, 2011.

(KHYBER PAKHTUNKHWA ACT NO. XII OF 2011)

[first published after having received the assent of the Governor of  
the Khyber Pakhtunkhwa in the Gazette of Khyber Pakhtunkhwa  
(Extraordinary), dated the 12<sup>th</sup> May, 2011].

AN  
ACT

*to regulate by law appointments, postings and transfers of teachers serving in  
primary, middle, secondary and higher secondary schools, lecturers in colleges and  
instructors in technical institutions and doctors in health facilities.*

**Preamble.**---WHEREAS it is expedient to regulate by law appointments,  
postings and transfers at local level, of teachers serving in primary, middle,  
secondary and higher secondary schools, lecturers in colleges and instructors in  
technical institutions and doctors in health facilities and to ensure the availability of  
teachers in schools, lecturers in colleges and instructors in technical institutions and  
the doctors in health facilities, and to regulate deputation of doctors abroad, and to  
provide for matters connected therewith or ancillary thereto;

It is hereby enacted as follows:

1. **Short title, application and commencement.**---(1) This Act may be called  
the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation, Posting and Transfer of  
Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011.

(2) It shall apply to teachers serving in primary, middle, secondary and  
higher secondary schools, lecturers in colleges as well as commerce colleges and  
instructors serving in technical institutions and doctors serving in the health facilities  
in the Province of the Khyber Pakhtunkhwa.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**---(1) In this Act, unless the context otherwise requires, the  
following expressions shall have the meanings hereby respectively assigned to them  
that is to say,--

(a) "Commission" means the Khyber Pakhtunkhwa Public  
Service Commission;



- (b) "doctor" means a doctor serving in the health facility;
- (c) "Government" means the Government of the Khyber Pakhtunkhwa;
- (d) "health facilities" mean all health facilities established and managed by the Government to provide medical facilities to general public;
- (e) "lecturer" and "instructor" respectively means a lecturer or an instructor serving in a Technical Institution as the case may be;
- (f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (g) "rules" mean the rules made under this Act;
- (h) "school" means school in the public sector including primary, middle, secondary school, higher secondary school or an institution of equivalent level imparting education through any system or medium of instruction in the public sector;
- (i) "teacher" means a teacher of primary, middle, secondary or higher secondary school; and
- (j) "technical institution" means and includes a Commerce College or Government College of Management Sciences or Technical Institute or Technical and Vocational Training Center or Skill Development Center in the public sector imparting technical education to students leading to the award of a degree or a diploma or a certificate.

(2) Words and phrases used in this Act, but not defined, shall have the same meanings as respectively assigned to them under the relevant federal law or provincial law or any other statutory order or rules for the time being in force.

3. Appointment, posting and transfer of primary school teachers.---(1) The vacancy of primary school teacher shall be filled in from the candidates belonging to the Union Council of their permanent residence mentioned in their Computerized National Identity Card and domicile, on merit and if no eligible candidate in that Union Council is available where the school is situate, such appointment shall be made on merit from amongst eligible candidates belonging to the adjacent Union Councils:

Provided that on availability of a vacancy, a primary school teacher, appointed from adjacent Union Council, as referred to in this sub-section, shall be transferred against a vacant post in a school of the Union Council of his residence within a period of fifteen days.

(2) Upon marriage, the primary school teacher on request may be transferred to the school in the Union Council, where his spouse, ordinarily resides, subject to the availability of vacancy.

(3) The primary school teacher shall be transferred to other school within the Union Council on completion of tenure as may be prescribed subject to the policy of rationalization for maintaining certain student teachers ratio, if any.

(4) Government shall, within a period not exceeding one year of the commencement of this Act, make arrangement for posting of all the primary school teachers appointed prior to coming into force of this Act, to the schools of their respective Union Councils or adjacent Union Councils, as the case may be.

4. Appointment of doctors, lecturers, instructors, subject specialists and teachers on adhoc basis.---(1) Government may, through the competent authorities make adhoc appointment on merit against the vacant posts of doctors, lecturers, instructors, subject specialists and teachers, falling within the purview of Commission, in a district concerned from the domicile holders of that district for a period of one year or till the arrival of recommendees of Commission, whichever is earlier after fulfilling the pre-requisites of giving wide publicity in the press. On assumption of charge of post by recommendee of the Commission, the services of such ad hoc appointee shall stand automatically terminated:

Provided that if no suitable and eligible candidate is available in the district concerned for appointment, then the candidates belonging to the neighbouring districts shall be considered for appointment in the order of their merit.

(2) Save as the appointment made under proviso of this section, "ad hoc appointee" shall serve in the district of his domicile.

(3) The post of a doctor, lecturer, instructor, subject specialist or secondary school teacher who proceeds on training or long leave may be treated as vacant post for the purpose of contract or contingent appointment till the return of such employee from training or long leave and assumption of charge of the post:

Provided that the period of such training or long leave shall not be less than one year and no appointment on contract or contingent shall be made on the post which may fall vacant for a period less than one year.

5. **Initial posting.**---(1) The doctors, the teachers and the lecturers and instructors upon their appointment shall be first posted in the periphery of the zone against whose quota they have been recruited, and they shall not be transferred for a period of at least three years.

(2) Upon expiry of the tenure as referred to in sub-section (1), transfer shall be made only upon the availability of substitute.

6. **Deputation of Doctors.**---(1) Government may allow deputation abroad for all categories of doctors only once in their entire service, for a period not exceeding three years.

(2) Deputation to "Foreign Service" within Pakistan shall be permissible only in respect of medical officers for a period not exceeding three years:

Provided that no further extension, on expiry of agreed tenure shall be given to the doctors who are already on deputation abroad or within Pakistan.

7. **Postgraduate Medical Education.**---(1) The Health Department, on the basis of objective need assessment and analysis, shall determine the intake number of Trainee Medical Officers (TMOs) in Postgraduate Medical Institute (PGMI) and Junior Registrars in Tertiary Care Hospitals every year. This stipulated number shall not exceed in any case.

(2) Any doctor selected or permitted for postgraduate medical training shall be treated on leave without pay and may be entitled only for stipend fixed by Government from time to time for such training.

(3) A doctor selected or permitted for postgraduate medical training shall provide surety bond prescribed by Government ensuring that upon completion of his studies for which he was initially selected, shall compulsorily serve for three years in the district of his domicile and in case of non-availability of a post in the district of domicile, he shall serve for three years in the rural area.

(4) For the purpose of sub-section (3), the doctor shall also provide guarantee of two government officers.

(5) In case of violation of sub-section (3), Government shall serve one month notice upon the doctor for resumption of duty, failing which the amount shall be recovered from him or from the guarantor, as the case may be.

8. **Provisions relating to doctors apply to lecturers and instructors.**---The provisions relating to doctors in section 7 of this Act shall *mutatis mutandis* apply to lecturers and instructors.


9. Act to over-ride other laws.---The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force.

10. Jurisdiction barred.---Save as provided under the Khyber Pakhtunkhwa Civil Servants Act, 1973 (Khyber Pakhtunkhwa Act No. XVIII of 1973), the Khyber Pakhtunkhwa Civil Servants (Appeal) Rules, 1986 and the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Act, 1974 (Khyber Pakhtunkhwa Act No. I of 1974), no order made or proceedings undertaken under this Act, or the rules made there under or any officer authorized by it shall be called into question in any Court, and no injunction shall be granted by any Court in respect of any decision made, or proceedings taken in pursuance or by any power conferred by or under this Act or the rules.

11. Removal of difficulties.---Government may, by order, provide for the removal of any difficulty which may arise in giving effect to the provisions of this Act.

12. Power to make rules.---Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

# بعدالت



2<sup>م</sup> منجانب  
Mst Shah Taj Akhtar  
24/09/2018  
Service Appeal  
Mst Shah Taj Akhtar  
مقدمہ  
دعویٰ  
جرم  
Director Education etc

## باعث تحریر آنکے

① Inayat ul Haq Chohan AOW PHC LHM(UK) کیلئے Peshawar  
مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی اور جواب دہی کی درخواست کی تھی۔


② Faheem Ullah Chohan AOW PHC کیلئے  
مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کمال اختیار ہوگا۔

دیکل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقرر ثالثہ فیصلہ پر حلف دیئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرنے اجراء اور صولی چیک در و پیر اور عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری کی طرف یا اپیل کی برادگی اور منصفی نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ لانا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ با اختیار حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پرواختہ منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانب التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا کہ سند ہے۔

24/09/2018  
2018 September  
الترقوم

واہ الع  
Peshawar  
Peshawar  
مقام  
Accepted  
Inayat ul Haq Chohan AOW PHC LHM(UK)

سہ ماہ 2018



(اختیار نامہ خاص)

بعدالت جناب Provincial Tribunal Service خیبر پختونخوا (پشاور)


سہ ماہیہ تاج اختر (ایمانت) پونہ ————— ام ڈائریکٹریٹ ایکشن E&S (پشاور کو فیروہ (ریپابلس)

(S.A.No.1226/2018)

مکہ فریج زود رسول نواز سکے سید آباد بازار احمد خان تحصیل خلیج بنوں۔ (اختیار نامہ)  
 چوں کہ میں وقت بصحت بدن و ثروت عمل چائی ہوش و خواص غریب و کفر و کراہت کے پارضا صحتی خود بذریعہ تحریر و اختیار و عہد اس  
 مدعا علیہ کا ایک عدد دعویٰ بالا بعنوان (S.A.No.1226/2018) عدالت پنجاب میں زیر مباحث ہے جو کہ میں مقررہ اختیار و عہد  
 ایچ گورت ذات پر قائم، جبکہ بیمار و طبل ہونے کے اسلئے عیوی مقدمہ عنوان بالا کرنے سے قاصر ہوں۔  
 لہذا اپنی جانب سے خاندان ام سکی رسول نواز ولد رشیدین سکے سید آباد بازار احمد خان تحصیل خلیج بنوں کو اختیار خاص مقرر  
 کر کے اختیار دیتی ہوں کہ اختیار خاص میں جانب میرے عیوی مقدمہ بالا کرے، وکیل مقرر کرے، مختلفانہ وکیل دیوے، جواب دعویٰ  
 دیوے، جواب الحجاب نمبر ست گلہاں، خرچہ گلہاں داخل کرے، وکیل لے جان، بیان طقی دیوے عیاشی نامہ کرے، درخواست ہر  
 نوع گزارے، درخواست گزارے، یکطرفہ کارروائی کی صورت میں منسوخی یکطرفہ درخواست گزارے، ہر چاند داخل کرے، وصول کرے  
 ہو سید دیوے، حکم درمیانی سے اپیل مگرانی عدت بخش گزارے، درخواست مقرر کرنے، ملل کیشن، سالان گزارے، عدویہ کیشن بیان  
 دیوے، عطرقات، کیشن دیوے، درخواست اجراء، تقداری اپیل، نظر رانی گزارے، مقدمہ بر خلاف فیصلہ ہونے کی صورت میں اپیل  
 عدالت طقی پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان گزارے، بر خلاف اپیل میں پیش ہو کر کارروائی/جواب دی کرے، انقض اختیار خاص کو من  
 جانب میرے کل طور پر اختیارات ساختہ و پر ساختہ حاصل ہونگے اور میں مقررہ ان مدعا علیہ/اختیار و عہد کو محور و قبول ہونگے۔ لہذا اختیار  
 نامہ خاص عیاشی ہے۔

مورخہ: .....

جاری ہے گا ملاحظہ کریں۔



9/38  
31-10-2018  
صنعتی سول سٹورز / انٹرنیشنل سول

NUZZAR UR REHMAN  
\* VENDOR \*  
JUDICIAL COMPLEX BAFER  
03338 / 87910 / 03005762949

(رہنمائی)

(1) (پروفیشنل) پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

(رہنمائی) (پروفیشنل) پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

(S.A.No.155815018)

(رہنمائی) (1) - اس کے تحت پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے

پروفیشنل ٹریبونل سروسز (P.T.S. Services) کے لیے




Rupees 30

۳۰ روپیہ

الحیدر

الحیدر



رسول نواز ولد رشیدین (اقتیار گروہ)

سماء نیراج (اقتیار گروہ)

قومی شناختی کارڈ نمبر: 3-11101-5628629

قومی شناختی کارڈ نمبر: 8-11101-18021191



گواہ شک

گواہ شک

نام: محمد بلال ولد انار زمان


نام: شہ نواز ولد نیک نواز

مکان: کوئٹہ سوسائٹی بازار اور خان منگل بنوں

مکان: سیٹھ آباد بازار اور خان منگل بنوں

قومی شناختی کارڈ نمبر: 9-11101-1442676

قومی شناختی کارڈ نمبر: 3-11101-518361



Handwritten signature and date 31/10/19



150/3

*[Handwritten signature]*

انجمن اسرار اشامپ و نذر  
جرم پیشگیری کلبہ میں  
US22973021

مکتوبہ

(مذکورہ) کے لئے  
1101-285858-3-1101-285858-3

مکتوبہ

مکتوبہ  
مکتوبہ  
مکتوبہ

مکتوبہ

(مذکورہ) کے لئے  
1101-285858-3-1101-285858-3


مکتوبہ

مکتوبہ  
مکتوبہ  
مکتوبہ



DISTRICT TREASURY  
11 OCT 2018  
BANKALU

N707993



Rupees **30** ۳۰ روپیہ



1500  
1500


ایم اسرار انعامی و نوری

☆ جوڈیشل کمپلیکس ہون ☆


03339738201

DISTRICT TREASURY  
11 OCT 2018  
RAJMU

463529



Rupees **45** ۴۵ روپیہ



10083

29/9/28

ایم اسرار احمد پور  
\* جوڈیشل کمپلکس ہونڈ \*  
030037201

DISTRICT TREASURY

17 SEP 2011

521111

بخدمت جناب چیئرمین اینڈ ممبر کورٹ آف سروس ٹریبونل کورٹ خیبر پختونخواہ پشاور

عنوان :- اپیل نمبر 1226 شاہ تاج

- ۱۔ ڈائریکٹر آف ایلمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خیبر پختونخواہ پشاور
- ۲۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) بنوں۔
- ۳۔ بم دھماکے میں شدید زخمی خاتون ہیڈ ٹیچر (فہر تاج) ضلع بنوں۔

جناب عالی!

مؤند بانہ گزارش کی جاتی ہے کہ Respondant No-3 مسماة فہر تاج پرائمری سکول ہیڈ ٹیچر سکول کی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد واپس گھر رہی تھی کہ 11 مئی 2018ء کو بنوں شہر میں کوہاٹ چوگی کے قریب پولیس موبائیل وین کو دشت گردوں نے دربوٹ کنٹرول بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ جس میں بد قسمتی سے فدویہ (فہر تاج) شدید طور پر زخمی ہو گئی۔ جس کی وجہ سے فدویہ تقریباً ایک ہفتے تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنوں میں زیر علاج رہیں۔

☆ معزز جج صاحب! اس واقع کی خبر سنتے ہی فرض شناس ڈائریکٹر ایجوکیشن (فریڈ خٹک صاحب) پشاور سے اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبہ (زنانہ) بنوں دونوں فدویہ کی عبادت کے لئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنوں تشریف لے آئیں۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ (فہر تاج) نے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو درخواست کی کہ فدویہ کو کافی عرصہ سے دور دراز سٹیشن پر اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سرانجام دے رہی ہے۔ چونکہ اب فدویہ بم دھماکے میں شدید زخمی ہو گئی ہے۔ لہذا فدویہ کو اپنے گھر کے نزدیک ترین سکول کو ٹرانسفر کر دیا جائے جس کو ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب نے منظور کرتے ہوئے قومی موجود ڈی ای او (زنانہ) بنوں کو ہدایات جاری کر دی کہ فدویہ کو جلد از جلد نزدیک ترین سکول میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔

☆ معزز جج صاحب! ڈی ای او (زنانہ) بنوں نے فدویہ کی تکلیفات کو مد نظر رکھ کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فدویہ کو گھر کے نزدیک ترین سکول گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول گڑھی شیر احمد میں تبادلے کے ارڈر صادر فرمائیں اور یہی سکول فدویہ کے گھر کے سب سے نزدیک ترین سکول ہے۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ بم بلاسٹ انجریز میں بہت سی مراعات کی مستحق ہیں لیکن فدویہ کو ایک چھوٹی سہولت (ٹرانسفر) کی کیا ملی کہ فدویہ کے خلاف صحت مند خاتون ٹیچر (شاہ تاج) نے جھوٹ کا سہارا لیکر اس Facility کو آپ کے معزز کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اور اس سہولت (ٹرانسفر) کو کورٹ کی مدد سے فدویہ سے یہ چھوٹی سی Facility بھی چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو کہ فدویہ کے سوچ کے مطابق نا انصافی ہے۔

☆ معزز جج صاحب! دوران سروس بم بلاسٹ میں شدید زخمی خاتون ٹیچر کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر Facilitate کرنا کوئی گناہ اور زیادتی نہیں ہے۔ اور اس کی جگہ دوسری صحت مند خاتون ٹیچر کو ٹرانسفر کرنا کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ مجاز اتھارٹی کو چائز ٹرانسفر کرنے کا حق حاصل ہے اور یہ سرکاری نوکری کا ایک حصہ ہے۔

☆ معزز جج صاحب! Bomb Blase Multiple Splinters ابھی تک فدویہ کے Body کے اندر موجود ہیں جن کی تمام میڈیکل ریکارڈ درخواست کے ساتھ لف ہیں۔ جس کی وجہ سے فدویہ کو گاڑی میں سفر کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ دوران سرنجی Bomb Blast Multiple Splinters فدویہ کے Body کے اندر Soft Tissues کو اندرونی طور پر بار بار زخمی کرتے رہتے ہیں۔ جس سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ ان تکلیفات کو فدویہ اور اس کے Family Meimbers ہی محسوس کرتے ہیں۔

☆ معزز جج صاحب! آپ سے عاجزانہ التجاء کی جاتی ہے۔ کہ فدویہ کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر فدویہ کو مزید ذہنی پریشانی جسمانی تکلیف اور معاشی نقصان سے بچانے کی خاطر فدویہ پر رحم کیا جائے۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ بنوں سے پشاور تک گاڑی میں سفر کرنے کی قابل نہیں۔ اور کورٹ میں پیشی سے معذرت خواہ ہیں۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ کو پشاور آنے کیلئے سپیشل گاڑی ہائر کرنی پڑتی ہے۔ جو کہ فدویہ کی بس سے باہر ہے۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ اس قابل بھی نہیں کہ وکیل کی فیس ادا کر سکے۔

☆ معزز جج صاحب! کم توڑ مہنگائی کی وجہ سے بڑی مشکل سے گھر کے اخراجات اور بچوں کے تعلیمی اخراجات قلیل تنخواہ سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔

☆ معزز جج صاحب! میرا ایک بیٹا پہلے سے ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ اور پچھلے پانچ سالوں سے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں ان کی میڈیکل ریکارڈ بھی درخواست کے ساتھ لف ہیں۔

☆ معزز جج صاحب! آپ صاحبان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ فدویہ کے مشکلات کو مد نظر رکھ کر فدویہ کو کورٹ پیشی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔  
زیادہ مہربانی ہوگی

مورخہ: 2018/1/1

درخواست دہندہ: Fabaa Taj

العارضی

Respondeont No-3 فہر تاج پرائمری اسکول ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول گڑھی شیر اجڑ ضلع بنوں

# DISCHARGE SLIP


D.H.Q Teaching Hospital Bannu  
Surgical Unit

Associate Professor & Head Of Department  
Dr. Ajmal Shah Bukhari  
Assistant Professor  
Dr. Makeel Shah

Senior Registrar  
Dr. Mohammad Shoaib  
District Specialist  
Dr. Mahmood Jan

Patient Name: عاجل شاہ Age 38yrs Sex ♀  
Date 16/5/18  
Address: Bannu D.O.A 11/5/18 D.O.D 16/5/18  
Chief Complaints: Bomb Blast injury  
Diagnosis: \_\_\_\_\_  
Operative Procedure and Findings: \_\_\_\_\_

HOSPITAL TREATMENT	HOME TREATMENT
- Inj Cefazolin 1g BD	- Tab Augmentin 1g
- Inj Diclo 1m	③ 1+1
- Inj Zantac 1/2 BD	- Tab Voren 30mg
	③ 1+1+1
	- Eyp Enrich
	2-2-2





TEACHING HOSPITAL BANNU

Accident & Emergency Deptt: 151000

Name: Fahar Taj W/O RASOOL NAWAZ Age 35 Sex M

Address: Bahar Ahmed Khan

Hospital Yearly No 20382/2018 Dated 11/05/18

12  
17  
Pt. Status  
Pt. Hist.

RI-  
Em<sup>o</sup> ✓ T.T 1/11 Spinal  
Em<sup>o</sup> Neck injury 1/11 Spinal  
Em<sup>o</sup> Sully. diaphragm (N.B.)  
Em<sup>o</sup> Tornia song

Clinical Examination  
Lig. of lower leg  
at Rt. ankle

Provisional Diagnosis  
Fracture of skull base (AP)  
Fracture of skull base (Lateral)  
Fracture of skull base (Frontal)

Investigations Required  
X-ray of face  
X-ray of Rt. leg  
X-ray of left thigh

AP  
Lateral  
Frontal  
AP  
Lateral  
Frontal  
AP  
Lateral  
Frontal

# M.T.I DHQ TEACHING HOSPITAL BANNU

Pt. Name: FATMA TAJ W/O RASOOL NAWAZ Date: 12.5.18  
 Ward: PSW Ad: Number: \_\_\_\_\_

TEST	RESULT	Normal VALUES	Test	Result
HB%	11.0 G/dl	M 13--18 F 11--16	Hbs Ag (ICT)	Negative
TLC	11250/cmm	4000--11000	Anti HCV (ICT)	Negative
DLC Polymorphs	70%	40--70%	HIV (ICT)	Negative
Lymphocytes	28%	20--40%	VDRL (ICT)	✓
Monocytes	02%	02--12%	TYPHI Dot (ICT)	✓
Esinophils	02%	01--06%	H. Pylori (ICT)	✓
Platelets count	1cmm	150000--450000		
E.T (Bleeding time)	Min. Sec.	02--05	Widal	TO: //
C.T (Clotting time)	Min. Sec.	05--08		TH: //
PT	Sec.	12--17		
ESR	Min after 1 <sup>st</sup> hr.	M 02--15 F 02--12	B. Group	
MP :-			Rh Factor	
A S O Titer	Iu/ml	<200	RA Factor	
TROP. T			LD Bodies	
TYPHIDQT	IgM IgG		Mycodot (ICT)	

### Bio Chemistry

TEST	RESULT	Normal VALUES	Test	Result	Normal VALUES
B. Sugar F/R		F: 70--110mg/dl R: 110--180mg/dl	S Cholesterol		100--220mg/dl
S. Calcium		9.0--11.0mg/dl	Triglycerides		70--200 mg/dl
B. Urea		10--60 mg/dl	HDL		Up to 50 mg/dl
S. Creatinine		0.6--1.2 mg/dl	LDL		50--150mg/dl
S. Billirubin		0.2--1.0mg/dl	SGOT (AST)		Up to 37 u/l
SGPT/ALT		Up to 42 u/l	S. Amylase		Up to 90 u/l
Alk (Phos)		Adult 90--258 Children <645	Sodium		135--155Mmo/l
S. Uric Acid		F: 2.4--5.7mg/dl M: 3.4--7.0mg/dl	Potassium		3.5--5.5Mmo/l
S. Albumin		3.8--5.1 mg/dl			

### Urine Examination

PHYSICAL EXAMINATION	CHEMICAL EXAMINATION	MICROSCOPY EXAMINATION
Quantity	Protin	Red Cells /HPF
PH	Sugar	Pus Cells /HPF
SP. Gravity	Leukocytes	Epith Cells /HPF
	Blood	Casts
	Ketone Bodies	Other

Remarks: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

12  
3. Cabre 12

3. Dico 2

D.S. (6)

5-18

3. Cabre (5)

3. Dico (5)

3. Zante (5)

3. Zante (5)

3. Zante (5)

D.S. (5)

3. Zante (5)

3. Zante (5)

3. Zante (5)

15/5

3. Cabre (4)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

D.S. (5)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

12/5/17

3. Cabre (2) TC

3. Dico (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

13/5

3. Cabre (5)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

3. D.S. (5)

3. Zante (2)

15/5

3. Cabre (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

3. Zante (2)

C.M.G.

3. Zante (2)





# HAYATABAD MEDICAL COMPLEX PESHAWAR

## Out-Patients Department

Name Fahar Taj Age 45 Years Sex Female

Department Neuro Surgery Address Peshawar

Hospital Yearly No. 2-1503-12498 Date 10 Mar 2015

History  
Rate: 10

10:32:00 AM

MALEOPD-2

ALIABBAS

CNIC#:-

Mobile / Phone #:-

Clinical Examination

*Dr. Shahid*

*2 Lap Motikane or  
in 78-*

*18/3/15  
Medical Superintendent  
Hayatabad Medical Complex  
Peshawar*

*Dr. Farooq*

*Antero*

*Provisional Diagnosis  
Cervical myelopathy  
Distal, Intercus*

*Dr.*

*(C) 47*

*to be of head*

Investigations

*at least 70% of Mound*

*Spine*

*Dr. Shahid Ayub  
Associate Professor  
Department of Neurosurgery  
PAMI Hayatabad Medical Complex  
Peshawar*

*not travel*

*Associate Professor  
Dr. Shahid Ayub  
Department of Neurosurgery  
PAMI Hayatabad Medical Complex  
Peshawar*

Certified that we have on the fore/after noon  
of this day on 05/09/018 respectively made over and received  
charge of this office of the HPST BFS-15, at GGPS Ghari Sher Ahmed  
Bannu vide DDO(F) Bannu Endst: 5327-29, dated 04/9/018.

Particular of cash and important secret and confidential  
documents handed over are noted reverse:-

Signature of ~~XXXXXXXX~~  
Handed over.  
Govt: Servant.  
Designation.  
ADDO(F)

1160  
5/9/2018

Signature of relieving Fahar Taj  
Taken over.  
Govt: servant.  
Designation. HPST-B-15

Endst: NO. 5327-29,

Dated, 05/09/018.

Copy to the:-

1. District Education Officer, (F) Bannu,
2. SDO(F) Bannu.
3. Office copy :-

Fahar Taj  
Fahar Taj  
Head Teacher,  
GGPS Garhi Sher Ahmed  
Bannu.



OFFICE OF THE  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (F) BANNU

CORRIGENDUM

In partial modification to this office Endost.No.5088-91 dated 24/08/2018 the following amendment is here by ordered in the interest of public service with immediate effect.

S.NO	Name & School	From	To	Remarks
1	Fakher Taj PSHT under transfer to GGPS: Mulagan	GGPS. Mandori qatal shah	GGPS. Ghari Sher Ahmad	V.S.No.2
2	Shahtaj PSHT	GGPS. Ghari Sher Ahmad	GGPS. Mandori qatal shah	V.S.No.1


*sd-*  
(DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU

Endst No. 5327-29 Dated 4/9 2018

Copy forwarded to:-

1. S.D.E.O (Female) Bannu,
2. District Monitoring Officer Bannu.
3. Teacher concerned.

*[Signature]*  
DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU



(مختیار نامہ خاص)

بعدالت جناب Provincial Tribunal Service خیبر پختونخوا (پشاور)

سماء شاہان اختر (ایمپلائٹ) پونہ ——— ام ڈائریکٹریٹ کیشن E&S (پشاور) کو غیرہ (ریسٹائنڈس)

(S.A.No.1226/2018)

مکہ فہرمان زوجہ رسول نواز سکے سید آباد بازار احمد خان تحصیل ضلع بنوں — (اختیار نامہ)

چوں کہ میں وقت بصحت بدن و ثروت عمل جاگتی ہوں اور خواہش ہے کہ اس تیسرا نمبر جو ایک غیرہ کے بارے میں خود بخود ریٹائر ہو گیا ہے اس کے بارے میں عدالت عالیہ کا ایک عدویہ دعویٰ بالا بنوان (S.A.No.1226/2018) عدالت عالیہ میں زیر سماعت ہے جو کہ من مقررہ اختیار نامہ  
یہ عدلیہ گورنٹ ذات پر وہ کلین، جبکہ بیار و کلین ہونے کے، اصلاحاتی عدویہ مقدمہ عنوان بالا کرنے سے قاصر ہوں۔


لہذا اپنی جانب سے خاندان ام کسی رسول نواز ولد رشیدین سکے: سید آباد بازار احمد خان تحصیل ضلع بنوں کو مختیار خاص مقرر  
کر کے اختیار دیتی ہوں کہ مختیار خاص من جانب میرے عدویہ مقدمہ بالا کرے، وکیل مقرر کرے، مختلف وکیل دیوے، جواب دعویٰ  
دیوے، جواب الجواب، غمرت گولہاں، خرچہ گولہاں داخل کرے، ہوائی لیسے بیان، بیان مطلق دیوے سرخی نامہ کرے، درخواست ہر  
نوع گزارے، درخواست گزارے، یکطرفہ کارروائی کی صورت میں منسوخی، یکطرفہ درخواست گزارے، ہر جانہ داخل کرے، وصول کرے  
، رسید دیوے، حکم درمیانی سے اپیل مگرانی، برٹ سٹیشن گزارے، درخواست مقرر کرنے، اپیل کیشن، ہالٹان گزارے، روہو کیشن بیان  
دیوے، عذر نامہ کیشن دیوے، درخواست اجراء، مقدر داری اپیل، نظر ثانی گزارے، مقدمہ برخلاف فیصلہ ہونے کی صورت میں اپیل  
عدالت مطلق پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان گزارے، برخلاف اپیل میں پیش ہو کر کارروائی / جواب ہی کرے، الفرض مختیار خاص کو من  
جانب میرے کلی طور پر اختیارات ساختہ و پرداختہ حاصل ہو گئے اور من مقررہ اس من و معاطیہ / اختیار نامہ کو حذور قبول ہو گئے۔ لہذا مختیار

نامہ خاص منہا تحریر ہے۔

مورخ:

جاری ہے تاکہ منہا ملاحظہ کریں۔

نامہ خاص منہا تحریر ہے۔  
[Handwritten signature and stamp]



العبد

العبد



رسول نواز ولد رشیدین (اختیار گریہ)  
قومی شناختی کارڈ نمبر: 3-5628629-11101



سماہ فہر تاج (اختیار گریہ)  
قومی شناختی کارڈ نمبر: 8-18021191-11101

گواہ شد

گواہ شد



نام: محمد بلال ولد انار زمان  
مکتبہ: کوئٹہ سن جان بازار اہل حقان روڈ صنایع بنوں  
قومی شناختی کارڈ نمبر: 9-1442676-11101



نام: شہ نواز ولد نیک نواز  
مکتبہ: سید آباد بازار اہل حقان صنایع بنوں  
قومی شناختی کارڈ نمبر: 3-518361-11101





بخدمت جناب چیئرمین اینڈ ممبر کورٹ آف سروس ٹریبونل کورٹ خیبر پختونخواہ پشاور

عنوان :- ایپل نمبر 1226 شاہ تاج

۱۔ ڈائریکٹر آف ایلمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خیبر پختونخواہ پشاور

۲۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) بنوں۔

۳۔ بم دھماکے میں شدید زخمی خاتون ہیڈ ٹیچر (فہر تاج) ضلع بنوں۔

جناب عالی!

مؤند بانہ گزارش کی جاتی ہے کہ Respondant No-3 مسماة فہر تاج پرائمری سکول ہیڈ ٹیچر سکول کی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد واپس گھرا ہی تھی کہ 11 مئی 2018ء کو بنوں شہر میں کوہاٹ چوگی کے قریب پولیس موبائیل دین کو دشت گردوں نے وریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ جس میں بد قسمتی سے فدویہ (فہر تاج) شدید طور پر زخمی ہو گئی۔ جس کی وجہ سے فدویہ تقریباً ایک ہفتے تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنوں میں زیر علاج رہیں۔

☆ معزز جج صاحب! اس واقع کی خبر سنتے ہی فرض شناس ڈائریکٹر ایجوکیشن (فریڈ تنک صاحب) پشاور سے اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبہ (زنانہ) بنوں دونوں فدویہ کی عبادت کے لئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنوں تشریف لے آئیں۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ (فہر تاج) نے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو درخواست کی کہ فدویہ کو کافی عرصہ سے دور دراز سیشن پر اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سرانجام دے رہی ہے۔ چونکہ اب فدویہ بم دھماکے میں شدید زخمی ہو گئی ہے۔ لہذا فدویہ کو اپنے گھر کے نزدیک ترین سکول کو ٹرانسفر کر دیا جائے جس کو ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب نے منظور کرتے ہوئے قومی موجود ڈی ای او (زنانہ) بنوں کو ہدایات جاری کر دی کہ فدویہ کو جلد از جلد نزدیک ترین سکول میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔

☆ معزز جج صاحب! ڈی ای او (زنانہ) بنوں نے فدویہ کی تکلیفات کو مد نظر رکھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فدویہ کو گھر کے نزدیک ترین سکول گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول گڑھی شیر احمد میں تبادلے کے ارڈر صادر فرمائیں اور یہی سکول فدویہ کے گھر کے سب سے نزدیک ترین سکول ہے۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ بم بلاسٹ انجریز میں بہت سی مراعات کی مستحق ہیں لیکن فدویہ کو ایک چھوٹی سہولت (ٹرانسفر) کی کیا ملی کہ فدویہ کے خلاف صحت مند خاتون ٹیچر (شاہ تاج) نے جھوٹ کا سہارا لیکر اس Facility کو آپ کے معزز کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اور اس سہولت (ٹرانسفر) کو کورٹ کی مدد سے فدویہ سے یہ چھوٹی سی Facility بھی چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو کہ فدویہ کے سوچ کے مطابق نا انصافی ہے۔

☆ معزز جج صاحب! دوران سروس بم بلاسٹ میں شدید زخمی خاتون ٹیچر کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر Facilitate کرنا کوئی گناہ اور زیادتی نہیں ہے۔ اور اس کی جگہ دوسری صحت مند خاتون ٹیچر کو ٹرانسفر کرنا کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ مجاز اتھارٹی کو چائنز ٹرانسفر کرنے کا حق حاصل ہے اور یہ سرکاری نوکری کا ایک حصہ ہے۔

☆ معزز جج صاحب! Bomb Blase Multiple Splinters ابھی تک فدویہ کے Body کے اندر موجودہ ہیں جن کی تمام میڈیکل ریکارڈ درخواست کے ساتھ لفٹ ہیں۔ جس کی وجہ سے فدویہ کو گاڑی میں سفر کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ دوران سفر یہی Bomb Blast Multiple Splinters فدویہ کے Body کے اندر Soft Tissues کو اندرونی طور پر بار بار زخمی کرتے رہتے ہیں۔ جس سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ ان تکلیفات کو فدویہ اور اس کے Family Meimbers ہی محسوس کرتے ہیں۔

☆ معزز جج صاحب! آپ سے عاجزانہ التجاء کی جاتی ہے۔ کہ فدویہ کی مشکلات کو مد نظر رکھ فدویہ کو مزید ذہنی پریشانی جسمانی تکلیف اور معاشی نقصان سے بچانے کی خاطر فدویہ پر رحم کیا جائے۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ بنوں سے پشاور تک گاڑی میں سفر کرنے کی قابل نہیں۔ اور کورٹ میں پیشی سے معذرت خواہ ہیں۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ کو پشاور آنے کیلئے سیشن گاڑی ہائر کرنی پڑتی ہے۔ جو کہ فدویہ کی بس سے باہر ہے۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ اس قابل بھی نہیں کہ وکیل کی فیس ادا کر سکے۔

☆ معزز جج صاحب! کم نوٹ مہنگائی کی وجہ سے بڑی مشکل سے گھر کے اخراجات اور بچوں کے تعلیمی اخراجات قلیل تنخواہ سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔

☆ معزز جج صاحب! میرا ایک بیٹا پہلے سے ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ اور پچھلے پانچ سالوں سے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں ان کی میڈیکل ریکارڈ بھی درخواست کے ساتھ لفٹ ہیں۔

☆ معزز جج صاحب! آپ صاحبان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ فدویہ کے مشکلات کو مد نظر رکھ کر فدویہ کو کورٹ پیشی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔

زیادہ مہربانی ہوگی

مورخہ: 26/01/2018

درخواست دہندہ: Fabriz Taj

العزازض

Respondeont No-3 فہر تاج پرائمری اسکول ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول گڑھی شیر احمد ضلع بنوں

# DISCHARGE SLIP


D.H.Q Teaching Hospital Bannu  
Surgical Unit

Associate Professor & Head Of Department  
Dr. Ajmal Shah Bukhari  
Assistant Professor  
Dr. Makeel Shah

Senior Registrar  
Dr. Mohammad Shoaib  
District Specialist  
Dr. Mahmood Jan

Patient Name: عاجل شاہ Age 38yrs Sex F  
Date 16/5/18  
Address Bannu D.O.A 11/5/18 D.O.D 16/5/18  
Chief Complaints Bomb Blast injury  
Diagnosis \_\_\_\_\_  
Operative Procedure and Findings \_\_\_\_\_

HOSPITAL TREATMENT	HOME TREATMENT
- Inj Cefaz $1g \frac{1}{2}$ BD.	- Tab Augmentin $1g$
- Inj Diclo $1m$	- $\text{O}_2$ (3) $1+1$
- Inj Zantac $\frac{1}{2}$ BD	- Tab Voren $50mg$
	- $\text{O}_2$ (3) $1+1+1$
	- Eyp Enrich $2-2-2$



TEACHING HOSPITAL BANGLA

Accident & Emergency Deptt: **RECORD**

Name: Kahar Raj w/o RASOH NAWAZ  
Age 45 Sex M

Address: 2201 Mirpur Khan

Hospital Yearly No 30380/172000 Dated 11/05/18

Pt. Status: RI- Pass to Home

Pt. Hist: Am ✓ T.T / M Spinal

Am Diagnosing the

Am Spinal cord injury

Am Lumbar Spinal

Clinical Examination: Upper leg  
at R lower leg

Provisional Diagnosis: Neurovascular  
Am

Investigations: Skull-X-ray

X-ray li leg

X-ray Rt leg

Face AP 11/05/18 AP

M.T.I. D.H.Q HOSPITAL BANNU.

Bed No: FAHARTAB Admn: No: 349/41

Name: 11/5/18 Age: 210g

Date	Medicine	Dose	Remarks
11/5/18	10 Cephalexin		→ Vival profile
	28 Cephalexin	1000	ADU RPS
	Drople 10ml		ADU
	Zantac 50mg	BID	D. GITAP
	3 Cephalexin	BID	left leg
	3 Prochlorperazine	SID	left leg
	Sup. Enrich 2TSF		left leg
	Daily dressing		left leg
			Digital PIC
			CBC
			Hb 11.5
			Hct 34
			Bone Blast

15/5/18  
 13. Cebrec (2)  
 Dico (2)  
 15-5-18  
 13. Cebrec (3)  
 Dico (3)  
 13. Zante (3)  
 13. Gant (3)  
 13. Tante (3)  
 D/Sy (5)  
 phoca (2)  
 miset (2)

15/5/18  
 13. Cebrec (4)  
 13. Zante (2)  
 13. Gant (2)  
 13. Tante (2)  
 Dico (2)  
 13. phoca (2)  
 miset (2)

15/5/18  
 13. Cebrec (2) TC  
 Dico (2)  
 13. Zante (2)  
 13. Gant (2)  
 13. Tante (2)  
 D/Sy (2)  
 phoca (2)  
 miset (2)

15/5/18  
 13. Cebrec (4)  
 13. Zante (2)  
 13. Gant (2)  
 13. Tante (2)  
 D/Sy (2)  
 phoca (2)

15/5/18  
 13. Cebrec (2)  
 13. phoca (2)  
 13. Zante (2)  
 13. Dico (2)  
 13. Gant (2)

# M.T.I DHQ TEACHING HOSPITAL BANNU

Pt. Name: FARHAT JABIR W/O RAJ SODH NAWAZ

Date: 12.5.18

Ward: PSW

Ad: Number: \_\_\_\_\_

TEST	RESULT	Normal VALUES	Test	Result
HB%	11.0 G/dl	M 13--18 F 11--16	Hbs Ag (ICT)	Negative
TLC	11250/cmm	4000--11000	Anti HCV (ICT)	Negative
DLC Polymorphs	70%	40--70%	HIV (ICT)	Negative
Lymphocytes	28%	20--40%	VDRL (ICT)	Negative
Monocytes	0%	02--12%	TYPHI Dot (ICT)	Negative
Esinophils	2%	01--06%	H. Pylori (ICT)	Negative
Platelets count	1/cmm	150000--450000		
E.T (Bleeding time)	Min. Sec.	02--05	Widal	TO: //
C.T (Clotting time)	Min. Sec.	05--08		TH: //
PT	Sec.	12--17		
ESR	Min after 1 <sup>st</sup> hr.	M 02--15 F 02--12	B. Group	
MP :-			Rh Factor	
A S O Titer	Iu/ml	<200	RA Factor	
TROP T			LD Bodies	
TYPHIDQT	IgM IgG		Mycodot (ICT)	

## Bio Chemistry

TEST	RESULT	Normal VALUES	Test	Result	Normal VALUES
B. Sugar F/R		F - 70--110mg/dl R - 110--180mg/dl	S Cholesterol		100--220mg/dl
S. Calcium		9.0--11.0mg/dl	Triglycerides		70--200 mg/dl
B. Urea		10--50 mg/dl	HDL		Up to 50 mg/dl
S. Creatinine		0.6--1.2 mg/dl	LDL		50--150mg/dl
S. Billirubin		0.2--1.0mg/dl	SGOT (AST)		Up to 37 u/l
SGPT/ALT		Up to 42 u/l	S. Amylase		Up to 90 u/l
Alk (Phos)		Adult 90--258 Children <645	Sodium		135--155Mmo/l
S. Uric Acid		F - 2.4--5.7mg/dl M - 3.4--7.0mg/dl	Potassium		3.5--5.5Mmo/l
S. Apburnin		3.8--5.1 mg/dl			

## Urine Examination

PHYSICAL EXAMINATION	CHEMICAL EXAMINATION	MICROSCOPY EXAMINATION
Quantity	Protin	Red Cells /HPF
PH	Sugar	Pus Cells /HPF
SP. Gravity	Leukocytas	Epith Cells /HPF
	Blood	Casts
	Ketone Bodies	Other

Remarks: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_



# HAYATABAD MEDICAL COMPLEX PESHAWAR

## Out-Patients Department

Name Fahar Taj Age 45 Years Sex Female

Department Neuro Surgery Address Peshawar

Hospital Yearly No. 2-1503-12498 Dated 10 Mar 2015

History

Rate: 10

10:32:00 AM

MALEOPD-2

ALIABBAS

CNIC#:-

Mobile / Phone #-:

Clinical Examination

*Bz...*

*2 lap Mobbikane...*

*18/3/15  
Medical Superintendent  
Hayatabad Medical Complex  
Peshawar*

*Provisional Diagnosis  
at base of head  
distal, lateral*

*to base of head*


*Investigations  
done*

*Associate Professor  
Dr. Shahid Ayub  
Department of Neurosurgery  
Peshawar Hayatabad Medical Complex*

*Associate Professor  
Dr. Shahid Ayub  
Department of Neurosurgery  
Peshawar Hayatabad Medical Complex*

*at base of head  
distal, lateral  
to base of head  
Investigations  
done  
long travel*





OFFICE OF THE  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (F) BANNU

CORRIGENDUM

In partial modification to this office Endost.No.5088-91 dated 24/08/2018, the following amendment is hereby ordered in the interest of public service with immediate effect.

S.NO	Name & School	From	To	Remarks
1	Fakher Taj PSHT under transfer to GGPS: Mulagan	GGPS. Mandori qatal shah	GGPS. Ghari Sher Ahmad	V.S.No.2
2	Shahtaj PSHT	GGPS. Ghari Sher Ahmad	GGPS. Mandori qatal shah	V.S.No.1

*Sd/-*  
(DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU)

Endst No. 5327-29 Dated 4/9/2018

Copy forwarded to the:-

1. S.D.E.O (Female) Bannu,
2. District Monitoring Officer Bannu.
3. Teacher concerned.

*[Signature]*  
DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU

Certified that we have on the fore/after noon  
of this day on 05/09/018 respectively made over and received  
charge of this office of the HPST HPS-15, at GGPS Ghari Sher Ahmed  
Bannu vide DDO(F) Bannu Endst: 5327-29, dated 04/9/018.

Particular of cash and important secret and confidential  
documents handed over are noted reverse:-

Signature of ~~XXXXXXXX~~ 1168  
Handed over.  
Govt: Servant.  
Designation.  
ADDO(F)

5/9/2018

45  
5/9/2018

Signature of relieving Fahar Taj  
Taken over.  
Govt: servant.  
Designation. HPST-B-15


Endst: NO. 5327-29,

Dated, 05/09/018.

Copy to the:-

1. District Education Officer, (F) Bannu,
2. SDO(F) Bannu.
3. Office copy :-

Fahar Taj  
Fahar Taj  
Head Teacher,  
GGPS Ghari Sher Ahmed  
Bannu.



(مختیار نامہ خاص)

بعدالت جناب Provincial Tribunal Service خیبر پختونخوا (پشاور)

مسماہ شاہ تاج اختر (ایمانت) پونہ نام ڈائریکٹر ایجوکیشن E&S (پشاور) و فیروزہ (ریسپانڈنس)

(S.A.No.1226/2018)

مکتبہ فخر تاج زینت رسول نواز مکتبہ سید آباد بازار احمد خان تحصیل وطنی علی (احتیاد عدہ)

چل رہی وقت بصحت بدن و ذرت عمل جاگی ہوش و خواص شہیر و اکرو فیروزہ کے بار خاندانی خود پذیر و تیز تیز ہذا اختیار عدہ اس  
مدعا علیہا کا ایک عدو دعویٰ بالا بخوان (S.A.No.1226/2018) عدالت آنجناب میں زیر سماعت ہے جو کہ من مقررہ اختیار عدہ  
بجہ غور ذات پردہ شہین، جبکہ بیاد طیل ہونے کے، اصلافاً بیروی مقدمہ عنوان بالا کرنے سے قاصر ہوں۔


لہذا اپنی جانب سے خاندان سہمی رسول نواز ولد رشیدین مکتبہ سید آباد بازار احمد خان تحصیل وطنی علی کو اختیار خاص مقرر  
کر کے اختیار دیتی ہوں کہ اختیار خاص من جانب میرے بیروی مقدمہ بالا کرے، وکیل مقرر کرے، محتاجانہ وکیل دیوے، جواب دعویٰ  
دیوے، جواب الجواب، غررت گولہان، خرچہ گولہان داخل کرے، وہاں لٹوے بیان، بیان وطنی دیوے، ہواشی نامہ کرے، درخواست ہر  
نوع گزارے، درخواست گزارے، یکطرفہ کارروائی کی صورت میں منسوخی، یکطرفہ درخواست گزارے، ہر جانہ داخل کرے، وصول کرے  
، رسید دیوے، حکم درمیانی سے اہل نگرانی، رٹ پٹیشن گزارے، درخواست مقرر کرنے، اہل کیشن، ثالثان گزارے، رو برو کیشن بیان  
دیوے، غدرات رٹ کیشن دیوے، درخواست اجراء، غدر داری اہل، نظر ثانی گزارے، مقدمہ برخلاف فیصلہ ہونے کی صورت میں اہل  
عدالت وطنی پاکستان، پریم کورٹ آف پاکستان گزارے، برخلاف اہل میں پیش ہو کر کارروائی / جوابدی کرے، الغرض اختیار خاص کو من  
جانب میرے کلی طور پر اختیارات ساختہ و پرداختہ حاصل ہو گئے اور من مقررہ من مدعا علیہا اختیار عدہ کو حاکم و قبول ہو گئے۔ لہذا اختیار

نامہ خاص سنداً تحریر ہے۔

مورخہ:

جاری ہے اگرکہ صفحہ لاناظر کریں۔

15/10/2018  
18/10/2018  
18/10/2018  
18/10/2018  
18/10/2018



العبد

العبد



رسول نواز ولد رشیدین (اقتیار کریمہ)

قومی شناختی کارڈ نمبر: 3-5628629-1101



سماة فہر تاج (اقتیار محمدہ)

قومی شناختی کارڈ نمبر: 8-18021191-1101

گواہ شد

گواہ شد



نام: محمد بلال ولد انار زمان


مکتہ کوئٹہ سون جان بازار اولہ خان اورڈ منیجمنٹ  
قومی شناختی کارڈ نمبر: 9-1442676-1101



نام: شاہ نواز ولد نیک نواز

مکتہ سید آباد بازار اولہ خان منیجمنٹ

قومی شناختی کارڈ نمبر: 3-518361-1101



Faint handwritten notes and text at the bottom of the page.

بخدمت جناب چیئر مین اینڈ ممبر کورٹ آف سروس ٹریبونل کورٹ خیبر پختونخواہ پشاور

عنوان :- اپیل نمبر 1226 شاہ تاج

۱۔ ڈائریکٹر آف ایلمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خیبر پختونخواہ پشاور

۲۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) بنوں۔

۳۔ بم دھماکے میں شدید زخمی خاتون ہیڈ ٹیچر (فہر تاج) ضلع بنوں۔

جناب عالی!

موندبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ Respondant No-3 مسماة فہر تاج پرائمری سکول ہیڈ ٹیچر سکول کی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد واپس گھر رہی تھی کہ 11 مئی 2018ء کو بنوں شہر میں کوہاٹ چوگی کے قریب پولیس موبائیل وین کو دشت گردوں نے ورہموت کنٹرول بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ جس میں بد قسمتی سے فدویہ (فہر تاج) شدید طور پر زخمی ہو گئی۔ جس کی وجہ سے فدویہ تقریباً ایک ہفتے تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنوں میں زیر علاج رہیں۔

☆ معزز جج صاحب! اس واقع کی خبر سنتے ہی فرض شناس ڈائریکٹر ایجوکیشن (فرید خٹک صاحب) پشاور سے اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبہ (زنانہ) بنوں دونوں فدویہ کی عبادت کے لئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنوں تشریف لے آئیں۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ (فہر تاج) نے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو درخواست کی کہ فدویہ کا کافی عرصہ سے دور دراز ہسپتال پر اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سرانجام دے رہی ہے۔ چونکہ اب فدویہ بم دھماکے میں شدید زخمی ہو گئی ہے۔ لہذا فدویہ کو اپنے گھر کے نزدیک ترین سکول کو ٹرانسفر کر دیا جائے جس کو ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب نے منظور کرتے ہوئے قومی جمع پر موجود ڈی ای او (زنانہ) بنوں کو ہدایات جاری کر دی کہ فدویہ کو جلد از جلد نزدیک ترین سکول میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔

☆ معزز جج صاحب! ڈی ای او (زنانہ) بنوں نے فدویہ کی تکلیفات کو مد نظر رکھ کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فدویہ کو گھر کے نزدیک ترین سکول گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول گڑھی شیر احمد میں تبادلے کے ارڈر صادر فرمائیں اور یہی سکول فدویہ کے گھر کے سب سے نزدیک ترین سکول ہے۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ بم بلاسٹ انجریز میں بہت سی مراعات کی مستحق ہیں لیکن فدویہ کو ایک چھوٹی سہولت (ٹرانسفر) کی کیا ملی کہ فدویہ کے خلاف صحت مند خاتون ٹیچر (شاہ تاج) نے جھوٹ کا سہارا لیکر اس Facility کو آپ کے معزز کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اور اس سہولت (ٹرانسفر) کو کورٹ کی مدد سے فدویہ سے یہ چھوٹی سی Facility بھی چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو کہ فدویہ کے سوچ کے مطابق نا انصافی ہے۔

☆ معزز جج صاحب! دوران سروں بم بلاسٹ میں شدید زخمی خاتون ٹیچر کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر Facilitate کرنا کوئی گناہ اور زیادتی نہیں ہے۔ اور اس کی جگہ دوسری صحت مند خاتون ٹیچر کو ٹرانسفر کرنا کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ مجاز اتھارٹی کو چائز ٹرانسفر کرنے کا حق حاصل ہے اور یہ سرکاری نوکری کا ایک حصہ ہے۔

☆ معزز جج صاحب! Bomb Blase Multiple Splinters ابھی تک فدویہ کے Body کے اندر موجودہ ہیں جن کی تمام میڈیکل ریکارڈ درخواست کے ساتھ لف ہیں۔ جس کی وجہ سے فدویہ کو گاڑی میں سفر کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ دوران سفر یہی Bomb Blast Multiple Splinters فدویہ کے Body کے اندر Soft Tissues کو اندرونی طور پر بار بار زخمی کرتے رہتے ہیں۔ جس سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ ان تکلیفات کو فدویہ اور اس کے Family Meimbers ہی محسوس کرتے ہیں۔

☆ معزز جج صاحب! آپ سے عاجزانہ التجا کی جاتی ہے۔ کہ فدویہ کی مشکلات کو مد نظر رکھ فدویہ کو مزید ذہنی پریشانی جسمانی تکلیف اور معاشی نقصان سے بچانے کی خاطر فدویہ پر رحم کیا جائے۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ بنوں سے پشاور تک گاڑی میں سفر کرنے کی قابل نہیں۔ اور کورٹ میں پیشی سے معذرت خواہ ہیں۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ کو پشاور آنے کیلئے سپیشل گاڑی ہائر کرنی پڑتی ہے۔ جو کہ فدویہ کی بس سے باہر ہے۔

☆ معزز جج صاحب! فدویہ اس قابل بھی نہیں کہ وکیل کی فیس ادا کر سکے۔

☆ معزز جج صاحب! کم نوٹ مہنگائی کی وجہ سے بڑی مشکل سے گھر کے اخراجات اور بچوں کے تعلیمی اخراجات قلیل تنخواہ سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔

☆ معزز جج صاحب! میرا ایک بیٹا پہلے سے ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ اور پچھلے پانچ سالوں سے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں ان کی میڈیکل ریکارڈ بھی درخواست کے ساتھ لف ہیں۔

☆ معزز جج صاحب! آپ صاحبان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ فدویہ کے مشکلات کو مد نظر رکھ کر فدویہ کو کورٹ پیشی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔

زیادہ مہربانی ہوگی

مورخہ: 24/10/2018

درخواست دہندہ: Fahar Taj

العزازض

Respondeont No-3 فہر تاج پرائمری سکول ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول گڑھی شیر احمد ضلع بنوں

# DISCHARGE SLIP


D.H.Q Teaching Hospital Bannu  
Surgical Unit

Associate Professor & Head Of Department  
Dr. Ajmal Shah Bukhari  
Assistant Professor  
Dr. Makeel Shah

Senior Registrar  
Dr. Mohammad Shoaib  
District Specialist  
Dr. Mahmood Jan

Patient Name علی شاہ Age 38yrs Sex ♀  
Date 16/5/18  
Address Bannu. D.O.A 11/5/18 D.O.D 16/5/18.  
Chief Complaints Bomb Blast injury.  
Diagnosis \_\_\_\_\_  
Operative Procedure and Findings \_\_\_\_\_

HOSPITAL TREATMENT	HOME TREATMENT
- Inj Cefaz 1g 1/2 BD.	- Tab Augmentin 1g
- Inj Diclo 1m	3 1+1
- Inj Zantac 1/2 BD	- Tab Voren 30mg
	3 1+1+1
	- Syrup Enrich
	2-2-2



TEACHING HOSPITAL BANNAR

Accident & Emergency Deptt: **REGD 1000**

W/O RASOH NAWAZ

Name: Fahar PT Age: 28 Sex: F

Address: Kadai Ahmed Khan

Hospital Yearly No. 2018/2727272 Dated 11/05/18

Pl. Status: Pass to Home

Pl. Hist: 7.7/11/18

Clinical Examination: Diagnosed as ...

Provisional Diagnosis: ...

Investigations Required: ...

X-ray: ...

X-ray: ...

X-ray: ...

X-ray: ...

X-ray: ...

X-ray: ...

12

12

12

12

12



**TREATMENT CHART**  
**M.T.I.D.H.Q HOSPITAL BANNU.**

Bed No: \_\_\_\_\_ Admn: No: 349/41  
 Name: Fahar Taj Age: 21 yrs  
M. J. Khan

Date	Medicine	Dose	Remarks
11/5/18	1r Cennel		→ Vival profile
	Cebex 20	1000	Adu RPS
	D. Cole 1000		Adu
	Zentac 500	BP	D. S. 1000
	G. d. 1000	BP	Left leg
	T. 1000	S.S.	Left leg
	Enrich 250		RT femur
	Daily dressing		D. S. 1000
			COC
			HBS 1000
			1100
			Bone Blast

15/5  
 1. Cebu (2)  
 2. Davao (2)  
 3. DLS (2)  
 4. Cebu (3)  
 5. Davao (2)  
 6. Zamboanga (2)  
 7. Davao (2)  
 8. Davao (2)  
 9. Davao (2)  
 10. Davao (2)

15/5  
 1. Cebu (4)  
 2. Davao (2)  
 3. Cebu (2)  
 4. Zamboanga (2)  
 5. DLS (2)  
 6. Zamboanga (2)  
 7. Zamboanga (2)

15/5/19  
 1. Cebu (2) TE  
 2. Davao (2)  
 3. Zamboanga (2)  
 4. Zamboanga (2)  
 5. Zamboanga (2)  
 6. Davao (2)  
 7. Zamboanga (2)  
 8. Zamboanga (2)

15/5  
 1. Cebu (4)  
 2. Zamboanga (2)  
 3. Zamboanga (2)  
 4. Zamboanga (2)  
 5. Zamboanga (2)  
 6. DLS (2)  
 7. Zamboanga (2)

15/5  
 1. Cebu (2) 1  
 2. Zamboanga (2) 2  
 3. Zamboanga (2) 3  
 4. Zamboanga (2) 4  
 5. Zamboanga (2) 5  
 6. Zamboanga (2) 6  
 7. Zamboanga (2) 7  
 8. Zamboanga (2) 8  
 9. Zamboanga (2) 9  
 10. Zamboanga (2) 10



# HAYATABAD MEDICAL COMPLEX PESHAWAR

## Out-Patients Department

Name Fahar Taj Age 45 Years Sex Female

Department Neuro Surgery Address Peshawar

Hospital Yearly No. 2-1503-12498 Date 10 Mar 2015

History  
Rate: 10

10:32:00 AM

MALEOPD-2

ALIABBAS

CNIC#:-

Mobile / Phone #-:

Clinical Examination

*Handwritten notes in Urdu*

*Handwritten notes in Urdu*

*Handwritten notes in Urdu*

*Handwritten notes in Urdu*

*Handwritten notes in Urdu*

*Handwritten notes in Urdu*

*Handwritten notes in Urdu*

*Handwritten notes in Urdu*

Investigations

*Handwritten notes in Urdu*

*Handwritten notes in Urdu*

Associate Professor  
*Dr. Shahid Ayub*  
Department of Neurosurgery  
PGM Hayatabad Medical Complex  
Peshawar

Associate Professor  
*Dr. Shahid Ayub*  
Department of Neurosurgery  
PGM Hayatabad Medical Complex  
Peshawar

# M.T.I DHQ TEACHING HOSPITAL BANNU

Pt. Name: Fahar Taj No Rasook Nawaz Date: 12.5.18  
 Ward: ESW Ad: Number: \_\_\_\_\_

TEST	RESULT	Normal VALUES	Test	Result
HB%	11.0 G/dl	M 13--18 F 11--16	Hbs Ag (ICT)	Negative
TLC	11.50/cmm	4000--11000	Anti HCV (ICT)	Negative
DLC Polymorphs	70%	40--70%	HIV (ICT)	Negative
Lymphocytes	28%	20--40%	VDRL (ICT)	///
Monocytes	02%	02--12%	TYPHI Dot (ICT)	///
Esinophils	02%	01--06%	H. Pylori (ICT)	///
Platelets count	1cmm	150000--450000		
B.T (Bleeding time)	Min. Sec.	02--05	Widal	TO: //
C.T (Clotting time)	Min. Sec.	05--08		TH: //
PT	Sec.	12--17		
ESR	mm after 1 <sup>st</sup> hr.	M 02--15 F 02--12	B. Group	
MP :-			Rh Factor	
A S O Titer	Iu/ml	<200	RA Factor	
TROP. T			LD Bodies	
TYPHIDQT	IgM IgG		Mycodot (ICT)	

### Bio Chemistry


TEST	RESULT	Normal VALUES	Test	Result	Normal VALUES
B. Sugar F/R		F: 70--110mg/dl R: 110--180mg/dl	S Cholesterol		100--220mg/dl
S. Calcium		9.0--11.0mg/dl	Triglycerides		70--200 mg/dl
B. Urea		10--50 mg/dl	HDL		Up to 50 mg/dl
S. Creatinine		0.6--1.2 mg/dl	LDL		50--150mg/dl
S. Billirubin		0.2--1.0mg/dl	SGOT (AST)		Up to 37 u/l
SGPT/ ALT		Up to 42 u/l	S. Amylase		Up to 90 u/l
Alk (Phos)		Adult: 90--258 Children: <845	Sodium		135--165mmol/l
S. Uric Acid		F: 2.4--5.7mg/dl M: 3.4--7.0mg/dl	Potassium		3.5--5.5mmol/l
S. Albumin		3.8--5.1 mg/dl			

### Urine Examination

PHYSICAL EXAMINATION	CHEMICAL EXAMINATION	MICROSCOPY EXAMINATION
Quantity	Protin	Red Cells /HPF
PH	Sugar	Pus Cells /HPF
SP. Gravity	Leukocytes	Epith Cells /HPF
	Blood	Casts
	Ketone Bodies	Other

Remarks: \_\_\_\_\_

Signature



OFFICE OF THE  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (F) BANNU

CORRIGENDUM

In partial modification to this office Endost.No.5088-91 dated 24/08/2018, the following amendment is here by ordered in the interest of public service with immediate effect.

S.NO	Name & School	From	To	Remarks
1	Fakher Taj PSHT under transfer to GGPS. Mulagan	GGPS. Mandori qatal shah	GGPS. Ghari Sher Ahmad	V.S.No.2
2	Shahtaj PSHT	GGPS. Ghari Sher Ahmad	GGPS. Mandori qatal shah	V.S.No.1

- sd -  
(DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU.

Endst No. 5327-29 Dated 4/9 /2018

Copy forwarded to the:-

1. S.D.E.O (Female) Bannu,
2. District Monitoring Officer Bannu.
3. Teacher concerned.

DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANN

Certified that we have on the fore/after noon  
of this day on 05/09/2018 respectively made over and received  
charge of this office of the HPST BPS-15, at GGPS Ghari Sher Ahmed  
Bannu vide DDO(F) Bannu Endst: 5327-29, dated 04/9/2018.

Particular of cash and important secret and confidential  
documents handed over are noted reverse:-

Signature of XXXXXXXX  
Handed over.  
Govt: Servant.  
Designation.  
ADDO(F)

1168  
5/9/2018

Signature of relieving Fahar Taj  
Taken over.  
Govt: servant.  
Designation. HPST-B-15

Endst: NO. 5327-29,


Dated, 05/09/2018.

Copy to the:-

1. District Education Officer, (F) Bannu,
2. SDEO(F) Bannu.
3. Office copy :-

Fahar Taj  
Fahar Taj  
Head Teacher,  
GGPS Garhi Sher Ahmed  
Bannu.





Rupees 30

۳۰ روپیہ

الحبیب

الحبیب

رسول نواز ولد رشیدین (اقتیار گریڈ)  
قومی شناختی کارڈ نمبر: 3-5628629-11101


مسماہ فیرتاج (اقتیار گریڈ)  
قومی شناختی کارڈ نمبر: 8-18021191-11101

گواہ شد

گواہ شد

نام: محمد بلال ولد انوار زمان  
مکتبہ: کوئٹہ سون جان بازار افسانہ خان اورد صنایع بنوں  
قومی شناختی کارڈ نمبر: 9-1442676-11101

نام: شہ نواز ولد نیک نواز  
مکتبہ: سید آباد بازار افسانہ خان صنایع بنوں  
قومی شناختی کارڈ نمبر: 3-518361-11101



31/10/18



BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. 1226 /2018

Mst. Shah Taj Akhtar..... Appellant


Versus

Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

**I N D E X**


S.No.	Description of documents.	Annexure	Pages.
1	Grounds of appeal.		1-6
2	Affidavit.		7
3	Stay application.		8-9
4	Affidavit.		10
5	Addresses of the parties.		11
6	Copy of impugned corrigendum order dated 04.09.2018	A	12
7	Copy of impugned order dated 24.08.2018	B	13
8	Copy of departmental appeal	C	14
9	Copy of appeal to Education Minister + Govt policy	D	15-21
10	Wakalatnama.		22

Appellant  
through

  
**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
Peshawar.  
LL.M (U.K)  
Cell: 0333-9227736

Dated: 24.09.2018

&

  
**Faheem Ullah Khan**  
Advocate High Court

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. 1226/2018

Mst. Shah Taj Akhtar w/o Abdul Nawaz  
R/o Khanaq Abad, Garhi Sher Ahmad  
Tehsil and District Bannu  
Primary School Head Teacher (PSHT) (BPS-15)  
GGPS, Garhi Sher Ahmad Bannu..... Appellant

Versus

- 1) Director Education Elementary and Secondary Education  
Khyber Pakhtunkhwa, near G.H.S.S No.1, G.T. Road,  
Peshawar.
- 2) District Education Officer, (Female) Bannu.
- 3) Fakhar Taj, Primary School Head Teacher..... Respondents

Appeal u/s 4 of the N.W.F.P Service Tribunal Act, 1974 against the impugned original order dated 04.09.2018 whereby respondent No.3 namely Fakhar Taj, PSHT was transferred from union council Lalozai area Sorani GGPS Mandori Qatal Shah to union council Garhi Sher Ahmad GGPS Mulagan against vide serial No.2 vide order dated 24.08.2018 but all of a sudden she (Fakhar Taj) was again transferred vide impugned corrigendum order dated 04.09.2018 from union council GGPS Mandori Qatal Shah to GGPS Garhi Sher Ahmad against vide serial No.2 against

which the appellant preferred her departmental appeal dated 05.09.2018 to respondent No.1, which was referred to respondent No.2 i.e. EDO (female) Bannu with the direction to transfer the appellant as per her request in terms of the government policy but her departmental appeal was filed.

---

Prayer:

On acceptance of this appeal, the impugned corrigendum order dated 04.09.2018 in original office order dated 24.08.2018 may kindly be set aside and the appellant may kindly be retained at her current place of posting i.e. GGPS Garhi Sher Ahmad because the impugned order was passed by respondent No.2 in utter violation of section 3 (3) of the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation, Posting and Transfer of Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011 against which departmental appeal dated 05.09.2018 was preferred to respondent No.1 which was received by the office of respondent No.2 vide Diary No. <sup>24</sup> 5065 dated 10.09.2018 and the same was filed, hence this appeal within stipulated period of 30 days against the final order, which is well within time.

Any other relief which this Hon'ble Tribunal deems appropriate in the circumstances of this service appeal and to whom the appellant found entitled may kindly also be granted.

---

***Respectfully Sheweth;***

Brief facts giving rise to the instant appeal are as under:-

- 1) That the appellant was appointed on 30.06.1997 as Primary School Teacher (PST) on regular basis in BPS-7 plus usual allowance as admissible under the existing rules/ policy from the date of her taking over charge in the public interest.
- 2) That the appellant having almost 21 years service at her credit and as such performing her duties with dedication, honesty and to the entire satisfaction of her immediate seniors without any complaint at her union council Garhi Sher Ahmad at the time of impugned transfer order referred above in the heading of this appeal.
- 3) That the appellant was transferred vide impugned corrigendum order Endst No.5327-29 dated 04.09.2018 from her Union Council GGPS Garhi Sher Ahmad to Union Council Lalozai area Sorani GGPS Mandori, whereas Fakhar Taj (PSHT) was transferred from union council Lalozai area Sorani GGPS Mandori Qatal Shah to union council GGPS Garhi Sher Ahmad. (Copy of impugned corrigendum order dated 04.09.2018 is attached as Annexure "A").
- 4) That initially respondent No.3 was transferred vide impugned original order Endst.No.5088-91 dated 24.08.2018 from union council Lalozai area Sorani GGPS Mandori Qatal Shah to union council Garhi Sher Ahmad GGPS Mulagan but all of a

sudden she was again transferred to union council Garhi Sher Ahmad against vide serial No.1 within a period of 10 days without assigning any reason or cause. (Copy of impugned order dated 24.08.2018 is attached as Annexure "B").

- 5) That the appellant feeling aggrieved by the impugned orders dated 04.09.2018 and 24.08.2018, preferred her departmental appeal dated 05.09.2018 to the Appellate Authority i.e. respondent No.1, which was referred to respondent No.2 to transfer the appellant as per her request keeping in view the posting and transfer policy but the same was filed. Hence presents this service appeal before this Hon'ble Tribunal on the following amongst other grounds within the stipulated period of 30 days against the final order. (Copy of departmental appeal preferred to the appellate authority is attached as Annexure C).
- 6) That the appellant also preferred another appeal to the Education Minister which was marked to EDO female Bannu with the direction to deal with the case as per government policy of posting and transfer regarding primary school teachers but the same was filed. (Copy of appeal is attached as Annexure D)

Grounds of appeal:

- a) That the impugned orders are against the law, facts and material available on record.
- b) That the respondent No.2 passed the impugned orders dated 04.09.2018 and 24.08.2018 which are violative of section 3 (3) of the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation,

Posting and Transfer of Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011.

It is pertinent to reproduce section 3(3) of the Act *ibid* for ready reference of this Hon'ble Tribunal.

**Section 3 Appointment, Posting and Transfer of Primary School Teachers--- (1) .....**

***“(3) The Primary School Teacher shall be transferred to other school within the Union Council on completion of tenure as may be prescribed subject to the policy of rationalization for maintaining certain student teachers ratio, if any”.***

It becomes abundantly clear from the above referred section 3(3) that respondent No.2 did not transfer the appellant within the union council of Garhi Sher Ahmad but instead she was transferred from union council Garhi Sher Ahmad GGPS Garhi Sher Ahmad to union council Lalozai area Sorani GGPS Mandori Qatal Shah, hence not tenable in the eyes of law.

- c) That respondent No.3 namely, Fakhar Taj, belongs to her parent Union Council Bazar Ahmad Khan where she could easily be transferred as per section 3(3) of Act *ibid* but she was not transferred in consonance with the Act *ibid* which act of respondent No.2 is without lawful authority, hence void *ab-initio*.

It is pertinent to mention that the word **“shall”** mentioned in section 3(3) of the Act *ibid* indicates that the act of transfer to other school within the union council is mandatory not discretionary.


- d) That as per government policy and as per section 3(3) of Act ibid it is in the public interest to transfer the Primary School Teacher within the Union Council to other school hence the impugned orders dated 04.09.2018 and 24.08.2018 were passed against the public interest, liable to be set aside.

Keeping in view, what has been stated above that on acceptance of this appeal, it is, therefore, humbly prayed that the impugned corrigendum order dated **04.09.2018** in original office order dated **24.08.2018** may kindly be set aside and the appellant may kindly be retained at her current place of posting i.e. **Union Council GGPS Garhi Sher Ahmad** vide serial No.2 because the impugned orders were passed by respondent No.2 in utter violation of section 3 (3) of the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation, Posting and Transfer of Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011.

Any other relief which this Hon'ble Tribunal deems appropriate in the circumstances of this service appeal and to whom the appellant found entitled may kindly also be granted.

**NOTE:**

The appellant so far has not relieved her charged at union council Garhi Sher Ahmad GGPS Garhi Sher Ahmad against vide serial No.2, hence this appeal may kindly be fixed as soon as possible.

Appellant  
through   
**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL. M (U.K)

&  
**Faheem Ullah Khan**  
Advocate High Court

Dated: 24.09.2018

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. \_\_\_\_\_/2018


Mst.Shah Taj Akhtar..... Appellant

Versus

Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

AFFIDAVIT

I, Mst.Shah Taj Akhtar w/o Abdul Nawaz R/o Khanaq Abad, Garhi Sher Ahmad Tehsil and District Bannu Primary School Head Teacher (PSHT) (BPS-15) GGPS, Garhi Sher Ahmad Bannu do hereby affirm and declare on oath that the contents of the **Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.

  
Deponent



BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. \_\_\_\_\_/2018

Mst. Shah Taj Akhtar..... Appellant

**Versus**

Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

APPLICATION FOR SUSPENSION OF  
THE OPERATION OF IMPUGNED  
ORDERS DATED 04.09.2018 AND  
24.08.2018 TILL THE FINAL DECISION  
OF ACCOMPANYING SERVICE APPEAL.

---

***Respectfully Sheweth;***

- 1) That the above titled appeal is being filed before this Hon'ble Tribunal in which no date has yet been fixed.
- 2) That grounds of appeal may be read as part and parcel of this application.
- 3) That prima facie arguable case exists in favour of petitioner/ appellant and there is every likelihood of its success.
- 4) That balance of convenience also lies in favour of the appellant in terms of section 3(3) of the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation, Posting and Transfer of Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011.
- 5) That if the relief as prayed for in the heading of application is not granted, petitioner/ appellant will suffer irreparable loss.

It is, therefore, prayed that on acceptance of this application, operation of the impugned orders dated 24.08.2018 and 04.09.2018 may kindly be suspended till final decision of instant service appeal.

Appellant/ Petitioner

through



**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL. M (U.K)

&

**Faheem Ullah Khan**  
Advocate High Court

Dated: 24.09.2018

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. \_\_\_\_\_/2018

Mst.Shah Taj Akhtar..... Appellant

Versus

Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

AFFIDAVIT

I, Mst.Shah Taj Akhtar w/o Abdul Nawaz R/o Khanaq Abad, Garhi Sher Ahmad Tehsil and District Bannu Primary School Head Teacher. (PSHT) (BPS-15) GGPS, Garhi Sher Ahmad Bannu do hereby affirm and declare on oath that the contents of the **Application** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.

  
Deponent

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. \_\_\_\_\_/2018

Mst.Shah Taj Akhtar..... Appellant

Versus

Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

ADDRESSES OF THE PARTIES

APPELLANT:

Mst.Shah Taj Akhtar w/o Abdul Nawaz  
R/o Khanaq Abad, Garhi Sher Ahmad  
Tehsil and District Bannu  
Primary School Head Teacher (PSHT) (BPS-15)  
GGPS, Garhi Sher Ahmad Bannu

RESPONDENTS:

- 1) Director Education Elementary and Secondary Education  
Khyber Pakhtunkhwa, near G.H.S.S No.1, G.T. Road,  
Peshawar.
- 2) District Education Officer, (Female) Bannu.
- 3) Fakhar Taj, Primary School Head Teacher

Appellant

through



**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL. M (U.K)

&

**Faheem Ullah Khan**  
Advocate High Court

**CORRIGENDUM**

In partial modification to this office Endost.No.5088-91 dated 24/08/2018 the following amendment is here by ordered in the interest of public service with immediate effect.

S.NO	Name & School	From	To	Remarks
1	Fakher Taj PSHT under transfer to GGPS. Mulagan	GGPS. Mandori qatal shah	GGPS. Ghari Sher Ahmad	V.S.No.2
2	Shahtaj PSHT	GGPS. Ghari Sher Ahmad	GGPS. Mandori qatal shah	V.S.No.1

-sd-

(DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU.

Endst No. 5327-28 Dated 4/9 /2018

Copy forwarded to the:-

1. S.D.E.O (Female) Bannu,
2. District Monitoring Officer Bannu.
3. Teacher concerned.

(DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANN

Checked  
by  
Advocate



OFFICE OF THE  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (F) BANNU.

Annex B<sup>u</sup>

-13-

**OFFICE ORDER**

As per the Director E&SE Khyber Pakhtun Khawa Peshawar the Transfer / Adjustment of the following teachers are hereby ordered on administrative ground as per their names and schools noted below, in the best interest of public service with immediate effect.

S.No	Name of Teacher	From	To	Remarks
1.	Fakher Taj PSHT	GGPS. Mandori Patal shah	GGPS. Mulagan ✓	V.S.No.2
2.	Kausar Ara PSHT	GGPS. Mulagan	GGPS. Mandori Patal shah	V.S.No.1
3.	Romana Naz PSHT	GGPS. Mumtaz Beli Killa	GGPS. Kotka Talib shah	V.S.No.4
4.	Mehesroon PSHT	GGPS. Kotka Talib shah	GGPS. Mumtaz Beli Killa	V.S.No.3

Note;

1. Charge report should be submitted to all concerned.
2. No TA/DA is allowed.

DISTRICT EDUCATION OFFICER,  
(FEMALE) BANNU.

Endst; NO. 5088-91 Bannu the

Dated; 24/08/2013

Copy to the;

1. Director E&SE Khyber Pakhtun Khawa Peshawar.
2. SDEO (F) Bannu.
3. DSO Bannu.
4. DAO Bannu.
5. Teachers Concerned.

Y. Sar Ali Khan

Approved by  
Advocate

DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU.

خدمت صحت ڈائریکٹر ایلیٹری اینڈ سکلنڈری انکوائری فیکٹیوں خواتین

عنوان: آرڈری صوبی

DIP No. 2463

10-9-20

صاحب عالی!  
گذشتہ دنوں سے کہ سماج سے فرخ تاج PSHT کے آرڈرنگ 91-9088  
مورچہ 24.8.08 کو جی جی پی ایس کوئٹہ ملائمان آرڈر ہوئے۔ بعد میں اسکے  
آرڈر جی جی پی ایس گڑھی سترہ الہ میں آرڈرنگ 29-337 مورچہ 2018 4.9  
کو ہوئے۔ دس دن کے اندر میں فرخ تاج کے دو سکول آرڈر ہوئے  
وہ کوئٹہ و جویات تھے جسکی وجہ سے انکے آرڈر دس دن میں جی جی پی ایس  
ملائمان سے جی جی پی ایس گڑھی سترہ لہ ہوئے۔

آپکے ساتھ مندرجہ ذیل گواہت دینے کیے گئے ہیں۔  
1- جی جی پی ایس گڑھی سترہ الہ میرے گاؤں کا سکول ہے جبکہ میں فرخ تاج کا  
تعلق دوسرے یونین کونسل بازار الہ خان سے ہے۔

2- 15 دن کے اندر میں فرخ تاج کے آرڈر کیں و جویات کی بنا پر دو سکولوں  
میں ہوئے آیا انکو وہ سکول بند نہیں آیا اور آفس والوں نے انکی حواستی  
کا احترام کیا۔

3- بازار الہ خان یونین کونسل میں 5 سے 6 سکول موجود ہیں جو اس سکول  
سے بھی قریب ہیں ان سکولوں میں کیوں نہیں آرڈر کروائیں۔

4- حکومتی پالیسی کے مطابق فیملی شیڈول کو اپنے ہی یونین کونسل میں حل دی جائے  
گی لیکن مجھے تو اپنے یونین کونسل سے 5 یونین کونسل دور تقریباً 30 کلومیٹر  
دور ٹرانسفر کیا گیا ہے۔

5- جی جی پی ایس کوئٹہ ملائمان میں فرخ تاج کے گھر سے تقریباً ایک فرلانڈ  
کے فاصلے پر ہے وہاں کیوں نہیں ہائیں آیا وہ سکول انکا صحتیہ کے مطابق نہیں  
آپ سے گزارش کی جاتی ہے ان گواہت کو دیکھ کر ہوئے

DEED (C) Bannu  
The Registrar  
Bannu

میرے تبادلے کے آرڈرنگ کے لیے  
الغرض  
گواہت

Director, Secondary Education,  
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

Attested Copy  
Director

خدمت صاحب کرامت اللہ بزاز صاحب وزیر تعلیم فیروز پختونخوا  
عنوان: ضلعی منیجر، شاہ تاج ایفٹر PSHT آرڈر، 29-5397 سونچ 4.9.2018

صاحب عالی

مذکورہ ہے کہ سجادہ میں فیروز تاج PSHT آرڈر 91-5888 سونچ 24/8/2018 کو جی جی ایس  
کوٹہ ملاکان آرڈر پوسٹ۔ بعد میں کے آرڈر جی جی ایس ٹرے میں آرڈر 29-5397  
سونچ 4/9/2018 کو پوسٹ۔ دس دن کے اندر میں فیروز تاج کے دو سکولوں میں آرڈر پوسٹ ہوئے تاکہ یہاں  
ساتھ زیادتی ہے۔

ایک سال سے مذکورہ ذیل گزارشات پیش کی جاتی ہیں۔  
جی جی ایس ٹرے میں ایف ڈی ایس ایف اسکول کے سکول ہے جبکہ فیروز تاج کا تعلق  
دوسرے یونین کونسل بازار احمد خان سے ہے۔  
یونین کونسل بازار احمد خان سے اسکول موجود ہیں ان سکولوں میں آئے آرڈر کیوں پیش ہوئے  
وہ کون سے وجوہات تھے قبلہ وجہ سے فیروز تاج کو دس دن کے اندر جی جی ایس کوٹہ ملاکان سے جی جی  
ایس ٹرے میں ایف ڈی ایس ایف ٹرانسفر کیا گیا۔  
فیروز پختونخوا کے تعلیمی ڈیپارٹمنٹ، پوسٹل اور ٹرانسفر آف ٹیچرز، ٹیچرز ریگولیشن ایکٹ 2011  
کے سیکشن 3 (3) کے تحت PSHT آرڈر کا تبادلہ اپنے یونین کونسل میں ہوتا ہے لیکن  
مجھے تو اپنے یونین کونسل سے اسکول کو تقریباً 500 کلومیٹر دور ٹرانسفر کیا گیا۔

اس لیے آپ سے خود بیان گزارشی ہے کہ میرے آرڈر منسوخ کیے جائیں۔

DEO (F) Bannu  
Per Govt Policy and  
posting Primary School Teachers  
as desired by Adv.  
0339/9720124

ایف ڈی ایس ایف  
PS to Advise  
Minister for Elementary &  
Secondary Education,  
Khyber Pakhtunkhwa

2558  
19/9/2018

شاہ تاج ایفٹر زون عبدالعزیز  
جی جی ایس ٹرے میں ایف ڈی ایس ایف سکول

Advocate



THE KHYBER PAKHTUNKHWA (APPOINTMENT, DEPUTATION,  
POSTING AND TRANSFER OF TEACHERS, LECTURERS,  
INSTRUCTORS AND DOCTORS) REGULATORY ACT, 2011.


(KHYBER PAKHTUNKHWA ACT NO. XII OF 2011)

CONTENTS

PREAMELE

SECTIONS

1. Short title, application and commencement.
2. Definitions.
3. Appointment, posting and transfer of primary school teachers.
4. Appointment of doctors, lecturers, instructors, subject specialists and teachers on adhoc basis.
5. Initial posting.
6. Deputation of Doctors.
7. Postgraduate Medical Education
8. Provisions relating to doctors apply to lecturers and instructors.
9. Act to over-ride other laws.
10. Jurisdiction barred.
11. Removal of difficulties.
12. Power to make rules.

  
Ali Akbar  
Advocate

THE KHYBER PAKHTUNKHWA (APPOINTMENT, DEPUTATION,  
POSTING AND TRANSFER OF TEACHERS, LECTURERS,  
INSTRUCTORS AND DOCTORS) REGULATORY ACT, 2011.

(KHYBER PAKHTUNKHWA ACT NO. XII OF 2011)

[first published after having received the assent of the Governor of  
the Khyber Pakhtunkhwa in the Gazette of Khyber Pakhtunkhwa  
(Extraordinary), dated the 12<sup>th</sup> May, 2011].

AN  
ACT

*to regulate by law appointments, postings and transfers of teachers serving in  
primary, middle, secondary and higher secondary schools, lecturers in colleges and  
instructors in technical institutions and doctors in health facilities.*

**Preamble.**---WHEREAS it is expedient to regulate by law appointments,  
postings and transfers at local level, of teachers serving in primary, middle,  
secondary and higher secondary schools, lecturers in colleges and instructors in  
technical institutions and doctors in health facilities and to ensure the availability of  
teachers in schools, lecturers in colleges and instructors in technical institutions and  
the doctors in health facilities, and to regulate deputation of doctors abroad, and to  
provide for matters connected therewith or ancillary thereto;

It is hereby enacted as follows:

1. **Short title, application and commencement.**---(1) This Act may be called  
the Khyber Pakhtunkhwa (Appointment, Deputation, Posting and Transfer of  
Teachers, Lecturers, Instructors and Doctors) Regulatory Act, 2011.

(2) It shall apply to teachers serving in primary, middle, secondary and  
higher secondary schools, lecturers in colleges as well as commerce colleges and  
instructors serving in technical institutions and doctors serving in the health facilities  
in the Province of the Khyber Pakhtunkhwa.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**---(1) In this Act, unless the context otherwise requires, the  
following expressions shall have the meanings hereby respectively assigned to them  
that is to say,-

(a) "Commission" means the Khyber Pakhtunkhwa Public  
Service Commission;

- (b) "doctor" means a doctor serving in the health facility;
- (c) "Government" means the Government of the Khyber Pakhtunkhwa;
- (d) "health facilities" mean all health facilities established and managed by the Government to provide medical facilities to general public;
- (e) "lecturer" and "instructor" respectively means a lecturer or an instructor serving in a Technical Institution as the case may be;
- (f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (g) "rules" mean the rules made under this Act;
- (h) "school" means school in the public sector including primary, middle, secondary school, higher secondary school or an institution of equivalent level imparting education through any system or medium of instruction in the public sector;
- (i) "teacher" means a teacher of primary, middle, secondary or higher secondary school; and
- (j) "technical institution" means and includes a Commerce College or Government College of Management Sciences or Technical Institute or Technical and Vocational Training Center or Skill Development Center in the public sector imparting technical education to students leading to the award of a degree or a diploma or a certificate.

(2) Words and phrases used in this Act, but not defined, shall have the same meanings as respectively assigned to them under the relevant federal law or provincial law or any other statutory order or rules for the time being in force.

3. Appointment, posting and transfer of primary school teachers.---(1) The vacancy of primary school teacher shall be filled in from the candidates belonging to the Union Council of their permanent residence mentioned in their Computerized National Identity Card and domicile, on merit and if no eligible candidate in that Union Council is available where the school is situate, such appointment shall be made on merit from amongst eligible candidates belonging to the adjacent Union Councils:

Provided that on availability of a vacancy, a primary school teacher, appointed from adjacent Union Council, as referred to in this sub-section, shall be transferred against a vacant post in a school of the Union Council of his residence within a period of fifteen days:

(2) Upon marriage, the primary school teacher on request may be transferred to the school in the Union Council, where his spouse, ordinarily resides, subject to the availability of vacancy.

(3) The primary school teacher shall be transferred to other school within the Union Council on completion of tenure as may be prescribed subject to the policy of rationalization for maintaining certain student teachers ratio, if any.

(4) Government shall, within a period not exceeding one year of the commencement of this Act, make arrangement for posting of all the primary school teachers appointed prior to coming into force of this Act, to the schools of their respective Union Councils or adjacent Union Councils, as the case may be.

**4. Appointment of doctors, lecturers, instructors, subject specialists and teachers on adhoc basis.**---(1) Government may, through the competent authorities make adhoc appointment on merit against the vacant posts of doctors, lecturers, instructors, subject specialists and teachers, falling within the purview of Commission, in a district concerned from the domicile holders of that district for a period of one year or till the arrival of recommendees of Commission, whichever is earlier after fulfilling the pre-requisites of giving wide publicity in the press. On assumption of charge of post by recommendee of the Commission, the services of such ad hoc appointee shall stand automatically terminated:

Provided that if no suitable and eligible candidate is available in the district concerned for appointment, then the candidates belonging to the neighbouring districts shall be considered for appointment in the order of their merit.

(2) Save as the appointment made under proviso of this section, "ad hoc appointee" shall serve in the district of his domicile.

(3) The post of a doctor, lecturer, instructor, subject specialist or secondary school teacher who proceeds on training or long leave may be treated as vacant post for the purpose of contract or contingent appointment till the return of such employee from training or long leave and assumption of charge of the post:

Provided that the period of such training or long leave shall not be less than one year and no appointment on contract or contingent shall be made on the post which may fall vacant for a period less than one year.

5. Initial posting.---(1) The doctors, the teachers and the lecturers and instructors upon their appointment shall be first posted in the periphery of the zone against whose quota they have been recruited, and they shall not be transferred for a period of at least three years.

(2) Upon expiry of the tenure as referred to in sub-section (1), transfer shall be made only upon the availability of substitute.

6. Deputation of Doctors.---(1) Government may allow deputation abroad for all categories of doctors only once in their entire service, for a period not exceeding three years.

(2) Deputation to "Foreign Service" within Pakistan shall be permissible only in respect of medical officers for a period not exceeding three years:

Provided that no further extension, on expiry of agreed tenure shall be given to the doctors who are already on deputation abroad or within Pakistan.

7. Postgraduate Medical Education.---(1) The Health Department, on the basis of objective need assessment and analysis, shall determine the intake number of Trainee Medical Officers (TMOs) in Postgraduate Medical Institute (PGMI) and Junior Registrars in Tertiary Care Hospitals every year. This stipulated number shall not exceed in any case.

(2) Any doctor selected or permitted for postgraduate medical training shall be treated on leave without pay and may be entitled only for stipend fixed by Government from time to time for such training.

(3) A doctor selected or permitted for postgraduate medical training shall provide surety bond prescribed by Government ensuring that upon completion of his studies for which he was initially selected; shall compulsorily serve for three years in the district of his domicile and in case of non-availability of a post in the district of domicile, he shall serve for three years in the rural area.

(4) For the purpose of sub-section (3), the doctor shall also provide guarantee of two government-officers.

(5) In case of violation of sub-section (3), Government shall serve one month notice upon the doctor for resumption of duty, failing which the amount shall be recovered from him or from the guarantor, as the case may be.

8. Provisions relating to doctors apply to lecturers and instructors.---The provisions relating to doctors in section 7 of this Act shall *mutatis mutandis* apply to lecturers and instructors.

9. Act to over-ride other laws.---The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force.
10. Jurisdiction barred.---Save as provided under the Khyber Pakhtunkhwa Civil Servants Act, 1973 (Khyber Pakhtunkhwa Act No. XVIII of 1973), the Khyber Pakhtunkhwa Civil Servants (Appeal) Rules, 1986 and the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Act, 1974 (Khyber Pakhtunkhwa Act No. I of 1974), no order made or proceedings undertaken under this Act, or the rules made there under or any officer authorized by it shall be called into question in any Court, and no injunction shall be granted by any Court in respect of any decision made, or proceedings taken in pursuance or by any power conferred by or under this Act or the rules.
11. Removal of difficulties.---Government may, by order, provide for the removal of any difficulty which may arise in giving effect to the provisions of this Act.
12. Power to make rules.---Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,  
PESHAWAR.

S.A.No. 1226 /2018

Mst. Shah Taj Akhtar..... Appellant

Versus


Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

**INDEX**

S.No.	Description of documents.	Annexure	Pages.
1.	Application for withdrawal with affidavit.		1-2
2.	Copy of order dated 16.11.2018		3

Appellant.

Through

  
**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL.M. (U.K)  
Cell: 0333-9227736

Dated: 28.11.2018

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK,PESHAWAR.Khyber Pakhtukhwa  
Service TribunalDiary No. 2175Dated 28/11/2018Put up to the court  
with relevant app.S.A.No. 1226 /2018Shah Taj Akhtar  
28/11/18

Mst. Shah Taj Akhtar..... Appellant

NeedleVersus

Director Education E&amp;S K.P, Peshawar and others..... Respondents

APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF THE  
CAPTIONED SERVICE APPEAL UPON  
SATISFACTION OF THE GRIEVANCE OF  
THE APPELLANT.

*Respectfully Sheweth*


1. That the captioned service appeal is subjudice before this Hon'ble Court and fixed for today i.e. 28.11.2018.
2. That respondent NO.2 of the appeal i.e. District Education Officer (female) Bannu vide order Endst No.7128-3 dated 16.11.2018 satisfied the grievance of the appellant by transferring her to Govt. Girls Primary School (GGPS) Luqman Kafshi Khel within her Union Council and her earlier posting order dated 04.09.2018 was modified and his earlier posting and transfer order to GGPS Mandori Qatal Shah was cancelled. (Copy of order dated 16.11.2018 is attached)
3. That appellant is no more interested in pursuing the above noted appeal, therefore, wants to withdraw the same subject to referring to the order in the order sheet by this Hon'ble Tribunal.



Keeping in view the above submission, it is, therefore, humbly prayed that on acceptance of this application, the above captioned service appeal may kindly be withdrawn subject to mentioning order dated 16.11.2018 in the order sheet.


  
Appellant


Through

  
**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL.M. (U.K)

**AFFIDAVIT**

I, do hereby affirm and declare on oath that the contents of the accompanying **Application** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Court.



  
Deponent



3

**OFFICE OF THE  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (F) BANNU**

**CORRIGENDUM**

In partial modification to this office Endost.No.5327-29 dated 04/09/2018 the following amendment is here by ordered in the interest of public service with immediate effect.

S.NO	Name & School	From	To	Remarks
1	Shahtaj Akhtar PSHT	GGPS. Ghari Sher Ahmad	GGPS. Luqman Kafshi khel instead of GGPS. Mandori qatal shah	On Administrative ground

NOTE: - subject to the condition that she will be withdrawn her Court case regarding her Transfer.

(DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU.

Endst No. 7128-30 Dated 16/11/2018  
Copy forwarded to the:-

1. Director E&SE Khyber Pakhtun khawa Peshawar.
2. S.D.E.O (Female) Bannu,
3. District Monitoring Officer Bannu.
4. Teacher concerned.

  
DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK.  
PESHAWAR.

S.A.No. 1296 /2018

Mst.Shah Taj Akhtar..... Appellant

Versus

Director Education E&S K.P, Peshawar and others.... Respondents

**INDEX**

S.No.	Description of documents.	Annexure	Pages.
1.	Application for withdrawal with affidavit.		1-2
2.	Copy of order dated 16.11.2018		3

Appellant

Through



**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL.M. (U.K)  
Cell: 0333-9227736

Dated: 28.11.2018

BEFORE THE PROVINCIAL SERVICE TRIBUNAL, KPK.  
PESHAWAR.

S.A.No. 1226 /2018

Mst. Shah Taj Akhtar..... Appellant

**Versus**

Director Education E&S K.P, Peshawar and others..... Respondents

---

APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF THE  
CAPTIONED SERVICE APPEAL UPON  
SATISFACTION OF THE GRIEVANCE OF  
THE APPELLANT.

---

***Respectfully Sheweth***

1. That the captioned service appeal is subjudice before this Hon'ble Court and fixed for today i.e. 28.11.2018.
2. That respondent NO.2 of the appeal i.e. District Education Officer (female) Bannu vide order Endst No.7128-3 dated 16.11.2018 satisfied the grievance of the appellant by transferring her to Govt. Girls Primary School (GGPS) Luqman Kafshi Khel within her Union Council and her earlier posting order dated 04.09.2018 was modified and his earlier posting and transfer order to GGPS Mandori Qatal Shah was cancelled. (Copy of order dated 16.11.2018 is attached)
3. That appellant is no more interested in pursuing the above noted appeal, therefore, wants to withdraw the same subject to referring to the order in the order sheet by this Hon'ble Tribunal.

Keeping in view the above submission, it is, therefore, humbly prayed that on acceptance of this application, the above captioned service appeal may kindly be withdrawn subject to mentioning order dated 16.11.2018 in the order sheet.

Appellant


Through




**Inayat Ullah Khan**  
Advocate High Court  
LL.M. (U.K)

**AFFIDAVIT**

I, do hereby affirm and declare on oath that the contents of the accompanying **Application** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Court.



Deponent



3

**OFFICE OF THE  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (F) BANNU**

**CORRIGENDUM**

In partial modification to this office Endost.No.5327-29 dated 04/09/2018 the following amendment is here by ordered in the interest of public service with immediate effect.

S.NO	Name & School	From	To	Remarks
1	Shahtaj Akhtar PSHT	GGPS. Ghari Sher Ahmad	GGPS. Luqman Kafshi khel instead of GGPS. Mandori qatal shah	On Administrative ground

NOTE: - subject to the condition that she will be withdrawn her Court case regarding her Transfer.

(DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANNU.

Endst No. 7128-30 Dated 16/11/2018  
Copy forwarded to the:-

1. Director E&SE Khyber Pakhtun khawa Peshawar.
2. S.D.E.O (Female) Bannu,
3. District Monitoring Officer Bannu.
4. Teacher concerned.

  
DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) BANN